

رحمۃ اللہ علیہ

امام زفر بن ہذیل

اسی کتاب میں آپ پڑھیں گے

مصنف

مولانا ابوالطہر محمد اظہر المدنی عطاری

الشہادۃ العالمیہ، المتخصص
فی الفقہ الاسلامی

- امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے مختلف پہلو
- آپ کے فتاویٰ جات (مفتی بہ مسائل)
- آپ سے مروی احادیث کا ترجمہ و تفصیل
- فقہ حنفی میں آپ کا مقام و مرتبہ
- علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ ”وسیلۃ الزفر کا خلاصہ“
- امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے موقف کی تائید پر تحقیقی رسالہ

مکتبہ فیضانِ شریعت،
0334-3298312

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شاگرد اعظم

مصنف

ابو اظہر محمد اظہر العطاری المدنی
المتخصص فی الفقہ الاسلامی، الشہادۃ العالمیہ

مکتبہ فیضان شریعت، لاہور

داتا دربار مارکیٹ، لاہور

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

وعلي الك واصحابك يا حبيب الله

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب-----شاگرد اعظم

مصنف-----ابو اظہر محمد اظہر العطاری المدنی

بن مولوی غلام رسول قادری (مرحوم)

نظر ثانی: مولانا محمد فراز در العطاری المدنی

پروف ریڈنگ: برادر گرامی، محمد انعام عطاری

ناشر-----مکتبہ فیضان شریعت، لاہور

صفحات-----

قیمت-----

اشاعت اول-----جمادی الاولیٰ 1434ھ، مارچ 2013ء

ملنے کے پتے

☆ مکتبہ بہار شریعت، (تقسیم کار) ☆ مکتبہ اعلیٰ حضرت دربار مارکیٹ، لاہور

☆ کرمانوالہ بک شاپ، داتا دربار مارکیٹ، لاہور ☆ مکتبہ قادریہ، داتا دربار مارکیٹ، لاہور

☆ مسلم کتابوی داتا دربار مارکیٹ، لاہور ☆ نوریہ رضویہ، دربار مارکیٹ ☆ مکتبہ شمس و قمر، بھائی چوک،

لاہور ☆ فرید بک سٹال، اردو بازار، لاہور ☆ ضیاء القرآن پبلی کیشنز، داتا دربار مارکیٹ، لاہور

☆ رضا ورائی، داتا دربار مارکیٹ، لاہور ☆ شبیر برادرز، اردو بازار، لاہور ☆ مکتبہ غوثیہ کراچی

☆ مکتبہ فیضان رضا، سرگودھا ☆ مکتبہ امام احمد رضا خان، دربار، مکتبہ علامہ فضل حق، دربار مارکیٹ

❖❖ .. فهرست .. ❖❖

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
1	انتساب	10
	موضوع اختیار کرنے کا سبب	11
	موضوع کی اہمیت	11
	پیش لفظ	12
	باب: سیرت امام زفر (رضی اللہ عنہ)	16
	فصل اول: امام زفر (رضی اللہ عنہ) کا تعارف	16
	امام زفر کا سلسلہ نسب عدنان پر جا کر حضور کے سلسلہ سے مل جاتا ہے	17
	امام زفر (رضی اللہ عنہ) کا لقب	19
	امام زفر (رضی اللہ عنہ) کی فیملی کا تعارف	21
	امام اعظم کے شاگردوں میں سب سے پہلے کس نے وفات پائی؟	23
	امام کا زفر (رضی اللہ عنہ) کا حلیہ مبارک	24
	ابتدائی تعلیم کے مراحل	25
	فصل ثانی: امام زفر (رضی اللہ عنہ) اور ان کے اساتذہ	28
	شاگردان امام زفر (رضی اللہ عنہ)	32
	امام زفر (رضی اللہ عنہ) کے مفتی بہ مسائل کے کم ہونے کی وجہ	34
	امام زفر (رضی اللہ عنہ) کے زیادہ مشہور نہ ہونے کی وجہ	37
	فصل ثالث: امام زفر، فقہ حنفی، اور امام اعظم	39

39	امام ابو حنیفہ (رضی اللہ عنہ) کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ
45	بقول امام اعظم زفر بن ہذیل استادوں کے بھی استاد
45	امام زفر (رضی اللہ عنہ) اور فقہ حنفی کی خدمت
48	امام زفر (رضی اللہ عنہ) بحیثیت ماہر نفسیات
50	اپنے استاد پر اعتماد کی ایک جھلک
52	امام اعظم رضی اللہ عنہ کی مجلس درس میں امام زفر کے بیٹھنے کی جگہ
53	فصل رابع: امام زفر (رضی اللہ عنہ) کا علمی مقام
56	امام اعظم (رضی اللہ عنہ) کے جانشین
58	مجلس تحقیقات شرعیہ
59	امام زفر (رضی اللہ عنہ) بحیثیت مفتی اور آپ کے قول پر فتویٰ
60	اپنے وقت کا سب سے بڑا فقیہ اور ان کے قول پر فتوے کا درجہ
61	20 مسائل میں امام زفر رضی اللہ عنہ کے قول پر فتویٰ دینے کی وجہ
62	امام زفر (رضی اللہ عنہ) کے فتویٰ دینے کا انداز
63	کوفہ کے سب سے بڑے عالم کا نام
64	امام زفر (رضی اللہ عنہ) ایک مناظر کی حیثیت سے
65	امام زفر (رضی اللہ عنہ) قیاس کے میدان میں
67	امام زفر (رضی اللہ عنہ) قیاس کب کرتے تھے؟
68	فضل بن دین امام زفر (رضی اللہ عنہ) کے علمی مقام کے معترف
68	امام زفر (رضی اللہ عنہ) کا مخالف قابل رحم ہوتا
69	جس سے آگئے ہیں سکھ بٹھا دیئے ہیں۔

70	تابعین کی امام زفر (رضی اللہ عنہ) سے والہانہ محبت و عقیدت
71	فصل خامس: آپ کی سیرت کے مختلف پہلو
71	آپ کی احتیاط اور صلاحیت کی ایک جھلک
76	امام زفر (رضی اللہ عنہ) کی طبیعت مبارکہ کیسی تھی؟
77	امام زفر (رضی اللہ عنہ) کی حکمت عملی
78	مفتیان دین کے لئے احتیاطی اصول
79	معاصرین سے محبت و عقیدت کی جھلکیاں
81	امام زفر ایک صوفی کی حیثیت سے اور آپ کا زہد و تقویٰ
81	امام زفر (رضی اللہ عنہ) زبردست قسم کا قفل مدینہ لگانے والے تھے
83	امام زفر (رضی اللہ عنہ) تصوف میں کسی کی اتباع کرتے تھے؟
85	کیا امام زفر بھی امام ابو یوسف (رضی اللہ عنہ) کی طرح قاضی تھے؟
87	امام زفر (رضی اللہ عنہ) کی بڑی پیاری نصیحت
90	امام زفر (رضی اللہ عنہ) اور علم کلام
91	قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟ کے جواب میں امام زفر کا دیا ہوا مدنی پھول
92	امام زفر (رضی اللہ عنہ) کی شان میں کہے گئے اشعار
93	اصحابِ رائے اور لفظ رائی کی تحقیق
96	اصحابِ رائے کی اصطلاح کی وجہ تسمیہ اور اس کا معنی
100	رائے کی اقسام
101	اصحابِ رائے کی مذمت میں عمر فاروق کے قول کی توضیح
104	فقہاء کرام بعض احادیث کو کیوں چھوڑ دیتے تھے؟

106	حدیث پر عمل نہ کرنے کی دس وجوہات بزبان امام الوہابیہ
115	باب مرویات امام زفر (رضی اللہ عنہ)
115	حدیث امام زفر (رضی اللہ عنہ) کا مذہب ہوا کرتی تھی
117	فصل اول: امام زفر جرح، تعدیل کے میدان میں
117	ابن سعد کی امام زفر (رضی اللہ عنہ) پر بے بنیاد جرح کا جواب
118	حافظ ذہبی کا امام زفر کے بارے فیصلہ کہ وہ ثقہ ہیں یا نہیں؟
119	حافظ ابن عبد البر کا امام زفر کے بارے فیصلہ
119	ابن حجر کا امام زفر (رضی اللہ عنہ) کے بارے فیصلہ
119	علم حدیث کے امام یحییٰ بن معین کا امام زفر کے بارے فیصلہ
120	ابو الفتح ازدی کی امام زفر پر کئی گئی جرح کی حقیقت
121	فصل دوم: امام زفر کی توثیق کرنے والے
121	یحییٰ بن معین (رضی اللہ عنہ) کا فرمان
121	ابو نعیم فضیل بن دین (رضی اللہ عنہ)
122	احناف کے مخالفین کا امام زفر کے بارے موقف
123	امام نسائی اور ابو عمر اور امام نووی شافعی (رضی اللہ عنہم)
124	حافظ ذہبی اور امام دارقطنی (رضی اللہ عنہما)
124	واہ کیا بات ہے امام زفر (رضی اللہ عنہ) کی
124	امام زفر (رضی اللہ عنہ) سے احادیث کی روایت میں کمی کی وجہ
126	فصل سوم: امام زفر سے مروی احادیث
126	کتاب الایمان

133	کتاب الطہارۃ
136	کتاب الصلوۃ
141	کتاب الاذان
142	کتاب الصوم
145	کتاب الحج
147	کتاب الزکاة
148	کتاب النکاح
150	کتاب البیوع
150	کتاب الشفعہ
151	کتاب الاجارۃ
151	کتاب الصيد والذبائح
153	کتاب الحدود
153	کتاب الوراثت
154	کتاب الجہاد
154	کتاب الطب
155	کتاب الادب
157	امام زفر کے مفتی بہ مسائل بصورت سوال جواب
157	نماز میں مریض کے بیٹھنے کا انداز کیا ہو؟
159	نفل نماز میں بیٹھنے کا انداز کیا ہو؟
161	گمشدہ شوہر کی عورت کے اخراجات کی صورت کیا ہوگی؟

163	کسی کے ناحق مقدمہ سے کسی کا مال حاکم نے لیا تو؟
163	وکیل بالخصومة اور وکیل بالتقاضی
164	مکان خریدنے میں خیار رویت کا مسئلہ
165	کپڑے کا تھان اور خیار رویت کا مسئلہ
166	کفالت بالنفس کا مسئلہ
167	خریدنے کے بعد عیب پیدا ہونے پر بیع مراہجہ کا مسئلہ
168	طلب شفعہ کے بعد تاخیر کرنے کی صورت
170	گری پڑی چیز کی حفاظت پر کئے ہوئے خرچے کی وصولی کا مسئلہ
171	مقروض قرض سے اچھی و ستھری شے واپس کرے تو؟
171	المسائل التي زادها ابن عابدين شامی
171	انت طالق واحده في ثنتين. سے کتنی طلاقیں ہوگی؟
172	اپنی موت یا اپنے قتل کر دیئے جانے پر اپنے غلام کی آزادی کو معلق کرنا
172	نکاح کی کوئی مدت مقرر کر دی جائے تو کیا حکم ہے؟
173	روپے، پیسے، وغیرہ کا وقف جائز ہے یا نہیں؟
173	سخت اندھیرے میں اجنبیہ کو بیوی سمجھ کر ہمبستری کر لی تو؟
173	بکرنے قسم کھائی کہ وہ زید کو کوئی چیز عاریت کے طور پر نہ دے گا۔ پھر زید کے بھیجے ہوئے قاصد کو ذلے ڈالی تو؟
174	نماز کا وقت کم رہ گیا۔ وضو کرے گا تو نماز کا وقت جاتا رہے گا تو؟
177	اس کی تقویت پر اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ
203	محل ضرورت میں زبل دواب کو پاک مانا جائے گا یا نہیں؟

205	امام زفر کے مرجوح قول کے مطابق مفتی بہ مسائل	
209	حرف آخر	
209	اعتذار	
210	مصادر و مراجع	

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انتساب

محترم و شفیق اور اپنے سب سے بڑے استاد شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سجاد در عطاری (آف تونسہ شریف) کے نام۔

حقیقت یہ ہے کہ مفتی سجاد در عطاری صاحب ہی میرے بڑے استاد ہیں، جو فیوض و برکات مجھے اپنے اساتذہ میں سے ان سے ملے، وہ میں کسی اور سے حاصل نہ کر سکا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آج میں تحریر و تصنیف و تقریر و افتاء، المختصر یہ کہ جس منصب پر بھی ہوں، اس کے پیچھے ان کا بہت بڑا کردار اور ان کے بہت عظیم تر عظیم احسانات ہیں، جن کا کوئی بدلہ چکایا نہیں جاسکتا، ان کا دل و جان سے احترام و شکریہ ہی ادا کیا جاسکتا ہے۔ جس لگن و شفقت و محبت و کڑن سے انہوں نے مجھے پڑھایا آج بھی جب وہ لمحات یاد آتے ہیں تو دل بے قرار ہو کر ان کے قدموں کو بوسے دینا کی تمنا کرتا ہے۔

اللہ عز و جل انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، صحت و عافیت و دین کی محبت اور اس پر استقامت کی لازوال دولت عطا فرمائے اور یہ دعائے میرے جملہ اساتذہ کرام، والدین، بھائی بشارت و دیگر برادران اور بیوی بچوں اور دوست احباب کے حق میں قبول فرمائے۔ آمین

موضوع اختیار کرنے کا سبب

- (1) پہلا سبب بعض افراد کی امام زفر (رضی اللہ عنہ) پر تنقید، وہ افراد کون و تنقیدی جملے کیا تھے؟ میں انہیں دہرانا نہیں چاہتا۔ اللہ عزوجل انہیں عقل عطا فرمائے۔
- (2) دوسرا سبب امام زفر (رضی اللہ عنہ) کا عوام کیا بلکہ خواص میں بھی متعارف نہ ہونا۔

- (3) مدارس میں پڑھتے و پڑھاتے ہوئے امام زفر (رضی اللہ عنہ) کے مذہب و اختلاف سے متعلق عدم دلچسپی۔

- (4) چوتھا سبب امام اعظم کے شاگرد اعظم ہونے کے باوجود ان کی سیرت پر کوئی آسان تر کتاب کا مارکیٹ میں دستیاب نہ ہونا۔

- (5) راقم الحروف کی فقہاء احناف سے محبت، اللہ عزوجل اسے سلامت رکھے۔

موضوع کی اہمیت

- موضوع کی اہمیت سے متعلق فقط ایک جملہ کافی ہے کہ یہ تصنیف اس ہستی کی ذات پر جسے امام اعظم (رضی اللہ عنہ) کے اکابر اصحاب کی صف میں شمار کیا جاتا ہے۔

یعنی لفظ

ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جو اپنے دین کا فقیہ بناتا ہے اسے جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اور اسے عمل خیر کی توفیق دے کر اس کے عمل کو قبولیت کا شرف بخشا ہے پھر اس کے مقام و مرتبے کو اس قدر بلند فرماتا ہے کہ اسے دنیا میں مرجع خلاق بنا کر اپنے دین متین کی خدمت لے کر اسے وقت کا امام تو کسی کو اماموں کا امام بناتا ہے۔ اپنے ایسے بندوں کو عاجزی دیتا ہے، اپنا خوف عطا فرماتا ہے، اخلاص کی بے بہا دولت کی نعمت دیتا ہے، قناعت کا وصف عطا فرماتا ہے، دنیا کی رنگینیوں سے انہیں بے نیاز کر کے فکر آخرت کی منزلیں طے کرنے میں آسانیوں سے نوازتا ہے۔

اپنے ایسے بندوں کو اپنی مخلوق کے لئے مثل چراغ بناتا ہے جو اندھیروں میں بھی اس کی مخلوق کے لئے روشنی کا کام دیتے ہیں، یہ بندے اس کی مخلوق کو گمراہی و تاریکی کی وادیوں سے نکال کر ہدایت کی وادی میں داخل کر کے ان کی اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کرتے ہیں، انہیں ضروریات دین کا سبق پڑھا کر بعد میں آنے والوں کے لئے مثل شمع بنا کر بعد والوں پر بھی احسان کرتے ہیں، دین کی محافل سجا کر دین کے کام کی ترقی کے لئے نئے نئے افراد تیار کرتے ہیں، کتب پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھتے ہیں، لکھواتے ہیں اور علم و ہدایت کے بے بہا خزانے کو اپنی سیرت، اپنی گفتگو اپنی تحریروں میں راہ حق کے متلاشیوں کے لئے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔

انہی افراد میں اسے ایک امام المسلمین امام زفر (رضی اللہ عنہ) ہیں، جنہوں نے اللہ و رسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے دین کو بڑی محنت سے سیکھا، رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی پیاری پیاری احادیث کو یاد کیا اس قدر کہ امام محمد شین

ہو گئے، آپ کی علمی ترقی کا سفر جاری رہا کہ ایک دین امام اعظم ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے ملاقات ہوئی جس نے آپ کی زندگی کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا، اس ایک ملاقات کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) امام اعظم کی مجلس کی طرف کھینچے چلے آئے اور ایسے آئے کہ بیس برس تک امام اعظم سے علمی تربیت حاصل کی اور اکابر اصحاب ابی حنیفہ کی صف میں شامل ہو کر اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ کہلائے حتیٰ کہ خود امام اعظم نے فرمایا کہ زفر بن ہذیل امام المسلمین ہیں۔

امام زفر کی سیرت کے کئی ایک پہلو ہیں جن سے کئی ایک مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں، مگر افسوس کہ آج تک آپ کی سیرت مبارکہ پر کوئی ایسی تحریر نہ تھی کہ جس سے عوام الناس امام زفر سے متعارف ہوتے، ان کی سیرت سے کچھ قیمتی موتی حاصل کرتے، اور یہ فقط اردو زبان تک نہیں بلکہ عربی زبان میں بھی آپ کی سیرت پر کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جسے عربی جاننے والا پڑھ کر کہہ سکے کہ میں نے امام زفر کی سیرت طیبہ کے اکثر پہلوؤں کا مطالعہ کر لیا ہے۔ دو سے تین کتابیں امام زفر کے مفتی بہ مسائل پر لکھی گئیں جن کی ابتدا میں دو سے تین صفحات بصورت مقدمہ ہوتے جن میں ان کی سیرت پر چند جملے لکھتے ہوئے واپس۔ اور یہ دو سے تین کتب بھی میری معلومات کے مطابق پاکستان سے نہیں ملتی، ہاں البتہ محمد زاہد بن حسن کوثری نے امام زفر کی سیرت پر عربی زبان میں ایک رسالہ لکھا ہے جو بمشکل دس سے بارہ صفحات پر مشتمل ہوگا۔

الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ، اللہ عز وجل کی توفیق، محبوب (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی نگاہ کرم اور فیضان مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری کی بدولت مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ امام زفر کی سیرت پر پھیلے ہوئے جملوں کو ایک جگہ اکٹھا کروں، اور

اس جلیل القدر امام المسلمین کو عوام الناس میں متعارف کرانے کی سعی کروں، جس میں میرے مولا کریم نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑا شکر گزار ہوں، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس طرح کے دینی کام کرنے کی سعادت ملے گی۔ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔

بہر کیف امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی سیرت پر دو چار مقام پر مواد نہ ملنے کی وجہ سے کافی دشواری کا سامنا ضرور کرنا پڑا مگر جدید الکٹرانک کتب سے استفادہ کی بدولت اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیابی کا سبب بنی، سینکڑوں الکٹرانک کتب کی مدد سے جہاں جہاں امام زفر کی سیرت پر کچھ ملا اسے ایک جگہ جمع کر کے ترتیب دیا۔

جن میں امام زفر کی سیرت

امام زفر سے مروی احادیث

اور امام زفر کے فتاویٰ جات سرفہرست ہیں۔

اللہ عزوجل سے دعا گو ہوں کہ وہ میری اپنے مقبول بندے و ولی کی سیرت پر اس سعی کو قبول فرمائے اور اسے میرے اور میرے والدین و فیملی کے لئے ذریعہ نجات بنائے اور میری آنے والی نسلوں کو امام زفر کے طفیل بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔

میں ہر سنی عالم و طالب علم و محبت دین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ امام زفر کی سیرت کو جاننے کے لئے اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور اہل سنت و جماعت کے اس عظیم ترین ولی و بلند پایہ فقیہ کو ہر خاص و عام تک متعارف کروانے کے لئے میری اس کاوش کا حصہ بنیں۔

اللہ عزوجل کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اس کے ولی ہوتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اس کے دین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو دنیا سے گئے اگرچہ کتنی ہی صدیاں گزر جائیں، اللہ عزوجل ان کی یاد کو، ان کے نام کو رہتی دنیا تک زندہ رکھتا ہے۔ اور ان کے نام کو، ان کی یاد کو، ان کی خدمات کو باقی و زندہ رکھنے کے لئے اسباب قائم فرماتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی انہی کا ایک حصہ ہے اور اس پر مجھے بہت خوشی ہے۔

اللہ عزوجل اپنے کرم کے مطابق مجھے اس کا اجر عطا فرمائے اور میں اس کی رحمت سے پر امید ہوں کہ وہ مجھے اس پر بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔

میں اس کتاب سے اللہ عزوجل کی رحمت سے ملنے والی نیکیوں کو اپنے والد محرم جناب مولوی غلام رسول قادری اور اپنے عزیز و پیٹھے بھائی بشارت علی عطاری مرحوم جو بھری جوانی میں اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے، کو ایصال کرتا ہوں۔ اللہ عزوجل اس ثواب کو ان کے لئے ذریعہ نجات بنائے اور انہیں اپنی رحمت سے بے بہا خروی نعمتوں سے نوازے۔ آمین

المتخصص في الفقه الاسلامي
ابو اظہر محمد اظہر العطاری المدنی بن غلام رسول
26 ربیع الآخر 1434ھ، 08 مارچ 2013ء

---باب: سیرت امام زفر---

---فصل: امام زفر کا تعارف---

آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا نام اور اس کا معنی

آپ کا نام زفر ہے، یہ عربی لفظ ہے۔ جس کے معنی عربی میں عموماً بہادری اور سخاوت کے آتے ہیں۔ لغت کی معروف کتاب میں ہے ”وزفر كلمة عربية تطلق على الرجل الشجاع، كما تطلق على الرجل الجواد“ ترجمہ: زفر عربی کلمہ ہے اس کا اطلاق بہادر شخص پر بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سخاوت کرنے والے پر ہوتا ہے۔ عربی لغت کی کتاب ”المنجد“ میں لفظ زفر کے کئی ایک معنی بیان کئے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: زفر:- شیر، بہادر، سمندر، بہت پانی والا، دیا، سختی، سردار، مشک کے اٹھانے کے لئے مضبوط آدمی، بہت عطیہ، دستہ فوج۔

(المنجد، مادہ: زفر، صفحہ 337، خزینہ علم و ادب، الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور)

آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے والد کا نام ”ہذیل“ ہے۔ الطبقات الكبرى میں ہے ”وكان أبو الهذيل“ ترجمہ: ان کے والد کا نام ہذیل تھا۔

(طبقات الكبرى، طبقہ سابعہ، زفر بن ہذیل، جلد 6، صفحہ 361، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی کنیت ”ابو ہذیل“ ہے۔ الطبقات الكبرى میں ابو عبد اللہ محمد بن سعد المتوفی 230ھ لکھتے ہیں ”ویکنی أبا الهذيل“ ترجمہ: آپ کی کنیت ابو ہذیل تھی۔

(طبقات الكبرى، طبقہ سابعہ، زفر بن ہذیل، جلد 6، صفحہ 361، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام زفر کی اس کے علاوہ ایک اور کنیت ابو خالد بھی تھی اگرچہ مشہور کنیت ابو ہذیل ہے جیسا کہ اخبار ابی حنیفہ میں ہے ”وكان زفر یکنی بأبی خالد وأبی الهذيل“

ترجمہ: امام زفر کی کنیت ابو خالد اور ابو ہذیل ہے۔

(انخبار ابی حنیفہ واصحابہ، جلد 1، صفحہ 111، عالم الکتاب، بیروت)

آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی پیدائش

امام زفر کی ولادت 110 ہجری یعنی 728 سن عیسوی میں ہوئی۔ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان بن قایما ز الذہبی المتوفی 748ھ لکھتے ہیں ”قُلْتُ: وَلِدَ سَنَةَ عَشْرِ وَمِائَةٍ“ ترجمہ: آپ کی ولادت 110ھ میں ہوئی۔

(سیر اعلام النبلاء، جلد 7، صفحہ 144، دار الحديث القاهرة)

اور یہی اکثر مورخین کا قول ہے۔ تاہم علامہ صلاح الدین خلیل بن ایک بن عبد اللہ صفدی المتوفی 764ھ نے الوافی بالوفیات میں ان کی تاریخ پیدائش 116 ہجری بتائی ہے۔

(الوافی بالوفیات، جلد 14، صفحہ 135، دار احیاء التراث، بیروت)

آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی ولادت عراق میں ہوئی۔ عراق کے کس مقام پر ہوئی، تلاش و بسیار کے باوجود کوئی حتمی و جزئی قول نہ ملا۔ ہاں البتہ بعض نے عراق کے شہر کوفہ کو ان کا جائے میلاد قرار دیا ہے جیسا کہ ایک مصنف بھی اس کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”ولد زفر بن الہذیل سنۃ فی العراق، ولا یعرف علی وجه الدقة موضع ولادته، وإن رجح بعض الباحثین أن تكون الکوفة ہی محل میلادہ“

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے شجرہ نسب کی تفصیل

ان کا سلسلہ نسب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے سلسلہ نسب عدنان سے جا ملتا ہے۔ ان کا خانوادہ اصہبان کے ممتاز عربی خانوادوں میں تھا، امام کروری نے لکھا ہے ”مَنْ نَسَبَ شَرِيفٌ“ یعنی ان کا تعلق ایک معزز گھرانے سے تھا۔ غالباً اسی امتیاز کی وجہ سے یزید بن عبد الملک نے ان کے والد کو اصہبان جیسے اہم مقام کا والی (گورنر) مقرر کر دیا

تھا۔ (زابد الکوثری نے تاریخ اصبہان کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہ اصبہان کے والی مقرر تھے وہیں امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی ولادت ہوئی؛ مگر امام کروری نے لکھا ہے کہ یہ بصرہ کے والی تھے، تاریخ اصبہان ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن شدذات الذہب وغیرہ سے پہلے بیان کی تائید ہوتی ہے؛ اس لیے اسی کو اختیار کیا گیا ہے)

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی اہلیہ بصرہ کے ممتاز محدث خالد بن حارث کی بہن تھیں، ان کی والدہ البتہ عجمی النسل تھیں، چنانچہ آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) صورت کے اعتبار سے عجمی اور سیرت کے اعتبار سے عربی تھے۔ آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے استاد محترم حجاج بن ارطاة (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کہا کرتے تھے: "اللسان عربی لا الوجه" ان کا چہرہ تو عربوں جیسا نہیں ہے مگر زبان عربوں جیسی ہے۔

آپ کا نسب نامہ یہ ہے: ابو ہذیل زفر عنبری بصری بن ہذیل بن قیس بن سلیم بن مکمل بن قیس بن ذہل بن ذویب بن جذیمہ بن عمرو بن جحور بن العنبر بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تمیم بن مرا بن اد بن طابخہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔

(وفیات الاعیان، حرف الزاء، زفر بن الہذیل، جلد 2، صفحہ 317، بیروت)

بعض نے آپ کے سلسلہ نسب میں آپ کے ایک اور دادا کا ذکر کیا ہے جن کا نام بھی زفر بن ہذیل ہی تھا۔ تاریخ جرجان میں ہے "أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني قال داود بن يزيد عن أبيه يزيد بن حاتم قال جاء زفر بن الہذیل إلى یزید بن المہلب وهو فی حبس الحجاج فقال لابنہ مخلد استاذن لی علی أیک فاستاذن له علیه فدخل علیه فقال: السلام علیک ایہا الأمير قد رکت أعظم من أن يستعان بک أو يستعان علیک وقد حملت

خمسين حمالة وقد قصدتك فقال: قد أمرت لك بها وشفعتها بمثلها فقال زفر: والله لا أقبل منها شيئاً فقال يزيد: ولم؟ فقال: إني بذلت لك من وجهي أكثر مما بذلت لي من مالك فخرج ولم يقبل منها شيئاً“

(تاریخ جرجان، ذکر مکارم یزید بن المہلب رحمہ اللہ، جلد 1، صفحہ 53، عالم الکتب بیروت)

لمحات النظر والے نے یہ واقعہ لکھنے کے بعد یہ عبارت مزید کی کہ ”قال: ابو بشر الدولابی زفر بن ہذیل ہذا هو جلد زفر بن الہذیل الفقیہ صاحب ابی حنیفہ“ ترجمہ: ابو بشر دولابی نے کہا کہ یہ زفر بن ہذیل وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے فقیہ شاگرد زفر بن ہذیل کے دادا ہیں۔

(لمحات النظر، صفحہ 6، المكتبة الازهرية، التراث، بیروت)

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی نسبت

آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو بصری، حنفی، تمیمی، کوفی اور عنبری وغیرہ کہا جاتا ہے۔

الجرح والتعديل 608/3 میں ہے ”زفر بن الہذیل بصری عنبری“ الثقات لابن

حبان 339/6 پر ہے ”کنیتہ ابو الہذیل الکوفی“ تاریخ جرجان 335/1 پر ہے ”

حدَّثَنَا زُفَرُ بْنُ الْهَذِيلِ التَّمِيمِيُّ“ اخبار ابی حنیفہ میں ہے ”اخبار ابی الہذیل زفر

بن الہذیل“ العنبری ”تہذیب الاسماء میں ہے ”هو أبو الہذیل زفر بن الہذیل

العنبری البصری“ (تہذیب الاسماء، حرف الزای، جلد 1، صفحہ 197، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا لقب اور لقب دینے والے کا نام

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا لقب ”فقہ نبیل“ ہے اور آپ کو یہ لقب دینے

والے کا نام ابو عاصم ہے۔ اخبار ابی حنیفہ میں ہے ”ولزم أبو عاصم زفر بن الہذیل

بعند ابی حنیفہ وعلیہ تفقہ وھو الذی لقبہ بالنیل“ ترجمہ: ابو عاصم نے امام ابو حنیفہ

کے انتقال کے بعد زفر بن ہذیل کا دامن تھام لیا اور انہیں سے فقہ سیکھی، انہوں نے آپ کو نبیل کا لقب دیا۔

(انخبار ابی حنیفہ واصحابہ، اخبار داؤد طائی، جلد 1، صفحہ 119، عالم الکتاب، بیروت)

تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں ہے ”وَقَالَ السَّاجِي أَيْضًا: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خُلْفٍ التِّمَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَسْطَامٍ التِّمَمِيُّ، قَالَ: كُنْتُ أَخْتَلِفُ أَنَا وَالْحَسَنَ اللَّوْلُؤِي إِلَى زُفَرِ بْنِ الْهَذِيلِ، فَرَأَى اللَّوْلُؤِي رُؤْيَا كَأَنَّهُ عَلَى فَرَسٍ هَادٍ، ثُمَّ صَارَ عَلَى حِمَارٍ قَبِيحِ الْمَنْظَرِ، فَعَبَّرْنَا هَا عَلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: تَلْزَمَانِ رَجُلًا فَقِيهًا نَبِيلًا يَمُوتُ عَنْ قَلِيلٍ، وَتَلْزَمَانِ بَعْدَهُ رَجُلًا دُنِيًّا، فَمَاتَ زُفَرٌ فَلْزَمْنَا نُوحَ بْنَ دِرَاجٍ بَعْدَهُ، فَقَالَ لِيَ اللَّوْلُؤِي: مَا كَانَ أَسْرَعَ صَحَّةَ الرُّؤْيَا“ ساجی کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن خلف تیمی نے، کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا محمد بن بسطام تیمی نے ان کا بیان ہے کہ میں اور حسن لولوی، زفر بن ہذیل کے ہاں اکثر آیا جایا کرتے تھے، لولوی نے رات کو خواب دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تیر رفتار گھوڑا ہے جس پر لولوی صاحب سوار ہیں پھر اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں ایک بد صورت گدھے پر سوار ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص سے اس کی تعبیر نکلوائی تو اس نے کہا کہ تم ایک فقیہ نبیل شخص سے ملو گے جو عنقریب وفات پانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم ایک ناپسندیدہ شخص کی رفاقت اختیار کرو گے پس زفر فوت ہوئے اور ہم نے نوح بن دراج کی رفاقت اختیار کی۔ پس مجھ سے لولوی نے کہا کہ خواب کی تعبیر کتنی جلدی صحیح طور پر رونما ہوئی۔

(تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، باب النون، جلد 30، صفحہ 47، بیروت)

المغنی میں ہے ”زُفَرُ بْنُ الْهَذِيلِ الْعَنْبَرِيُّ الْفَقِيهَ صَدُوقٌ وَثَقُهُ غَيْرُ وَاحِدٍ“

ترجمہ: زفر بن ہذیل عنبری فقیہ صدوق ہیں۔ کئی ایک نے ان کی توثیق بیان کی۔

(المعنى فى الضعفاء، حرف الزاى، جلد 1، صفحہ 238،)

آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے خاندان کا مختصر تعارف

آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا تعلق ایک معروف معزز خاندان سے تھا جیسا کہ طبقات المحدثین میں ہے ”وكان للهذيل ثلاث بنين: الكوثر وهو أكبرهم وكان ينزل بأصبهان قرية براءان وعليه قدم زفر بن الهذيل وهرثمة بن الهذيل وكان من أعرف الناس بالأنساب والأشعار“ ترجمہ: ہذیل کے تین بیٹے تھے: ایک کا نام کوثر جو سب سے بڑے تھے۔ اصبہان کے ایک گاؤں براءان میں رہائش اختیار کی اور ان کے دیگر دونوں بھائی، زفر اور ہرثمہ ان کے پاس یہیں تشریف لے آئے۔ آپ علم الانساب اور اشعار کو زیادہ جانتے تھے۔

(طبقات المحدثین، الطبقة الرابعة، جلد 1، صفحہ 451، مؤسسة الرسالة، بیروت)

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے والد اموی دور حکومت میں بعض حکومتی مناصب پر بھی فائز رہے جیسا کہ کتب تاریخ و سیر میں اس کا بیان موجود ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے قتل کے بعد ان کو اصبہان کا گورنر بنایا گیا ابو بکر محمد بن حسن ازدی الاشتقاق 214/1 مطبوعہ بیروت میں لکھتے ہیں کہ ”غلب علی أصبهان زمن الفتنة“ لیکن جلد ہی وہ معزول کر دیئے گئے طبقات المحدثین لاصبہان ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن جعفر بن حیان الأنصاری المعروف بابی الشیخ الأصبہانی المتوفی 369ھ میں ہے ”وكان أبوه الهذيل بن قيس مقيما بأصبهان في سنة ست وعشرين ومائة في خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك وهو الذي كان يسمى الناقص فلما قتل يزيد وبويع إبراهيم بن الوليد بقي سبعين يوماً ثم خلع وثبت الهذيل على أصبهان فتولى أمرها“ ترجمہ: امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے والد ہذیل بن قیس 126ھ میں یزید بن

ولید بن عبد الملک جسے ناقص بھی کہا جاتا ہے کے دور حکومت میں اصہبان میں مقیم ہوئے پھر جب یزید کو قتل کر دیا گیا اور ابراہیم بن ولید اقتدار میں آیا جو صرف سترہ دن تک ہی اقتدار میں رہ سکا اس وقت آپ کے والد کو اصہبان کا گورنر مقرر کیا گیا۔

(طبقات المحدثین، زفر بن ہذیل، جلد 1، صفحہ 450، بیروت)

اس سے قطع نظر تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا گھرانہ ایک خوشحال گھرانہ تھا جہاں وسائل زندگی کی کوئی کمی نہ تھی۔ واقعہ کتب تاریخ میں امام زفر کے دادا کا یزید بن مہلب کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان دولت و شہرت کے علاوہ خصال خیر سے بھی متصف تھا۔ ان کے بھائی بہنوں کے بارے میں حافظ ابو نعیم فرماتے ہیں ”كَانَ أَبُوهُ بِأَصْبَهَانَ فِي دَوْلَةِ يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ، فَكَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ: زُفَرٌ، وَهَرِثْمَةُ، وَكُوْثَرٌ“ ترجمہ: امام زفر کے والد یزید بن ولید کے عہد اقتدار میں اصہبان میں تھے۔ ان کی اولاد میں تین افراد تھے زفر، ہرثمہ اور کوثر۔

(سیر اعلام النبلاء، جلد 7، صفحہ 144، دار الحديث القاهرة)

بعض تاریخی روایات میں ان کے ایک اور بھائی کا نام ملتا ہے جن کا نام ”صبحاح بن ہذیل“ ہے اور وہ بنی تمیم کے صدقات پر مامور تھے جیسا کہ الطبقات الکبریٰ میں اس کی صراحت موجود ہے کہ ”وَكَانَ أَخُوهُ صَبَاحُ بْنُ الْهَذِيلِ عَلَى صَدَقَةِ بَنِي تَمِيمٍ“ ترجمہ: آپ کے ایک بھائی کا نام ”صبحاح“ تھا جو بنی تمیم کے صدقات پر مامور تھے۔

(طبقات کبریٰ، طبقہ سابعہ، زفر بن ہذیل، جلد 6، صفحہ 361، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا وقت رحلت

امام زفر کی وفات تیس شعبان 158ھ 775ء یا 776ھ سن عیسوی میں ہوئی اور

آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی عمر مبارک 48 سال اور دوسرے قول کے مطابق 47 سال تھی

کہ آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انا لله وانا اليه راجعون۔ نصب الراية لاحاديث الهداية میں ہے ”الإمام زفر بن الهذيل البصري، المتوفى سنة 158“ الجواهر میں ہے ”وتوفى بالبصرة سنة ثمان وخمسين ومائة وله ثمان وأربعين سنة“ ترجمہ: آپ کا بصرہ میں 158ء میں انتقال ہوا اور آپ کی عمر مبارک 48 سال ہوئی۔

(جواهر لمضية في طبقات الحنفية، جلد 1، صفحہ 244، میر محمد کتب خانہ، کراچی)

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا زمانہ وفات

اخبار ابی حنیفہ میں ہے ”وزفر هو زوج اخت خالد بن الحارث ومات في اول خلافة المهدي سنة ثمان وخمسين ومائة“ ترجمہ: امام زفر خالد بن حارث کی بہن کے شوہر تھے اور آپ کی وفات خلافت مہدی کے اوائل میں 158 ہجری میں ہوئی۔

(اخبار ابی حنیفہ واصحابہ، اخبار ابی ہذیل، جلد 1، صفحہ 112، عالم الکتب، بیروت)

لمحات النظر میں ہے ”وكانت وفاته بالبصرة سنة 158 هـ في شهر شعبان فيمادكره ابن خلکان فتكون وفاته قبل وفاة المنصور العباسي بأربعة اشهر“ ترجمہ: ابن خلکان کے مطابق آپ کی وفات شہر بصرہ میں 158 ھ ماہ شعبان میں ہوئی، اس کے مطابق آپ کی وفات منصور عباسی کی وفات سے چار ماہ قبل ہوئی۔

(لمحات النظر، صفحہ 5، المكتبة الازهرية، التراث، بیروت)

امام اعظم کے شاگروں میں سب سے پہلے وفات پانے والے

الفکر السامی فی تاریخ الفقہ الاسلامی میں ہے ”توفی 158“ ثمان وخمسين ومائة، فهو أقدم أصحابه موتاً“ ترجمہ: آپ کی وفات 158 ہجری میں ہوئی اور امام ابو حنیفہ کے بعد آپ کے شاگروں میں سے سب سے پہلے دنیائے فانی سے کوچ

کر گئے والے امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہیں۔

(الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی، جلد 1، صفحہ 514، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے موصی نہ

امام زفر کی وصیت کیا تھی اور کس چیز کی تھی؟ یہ معلوم نہ ہو سکا بلکہ بعض عبارات میں آیا کہ جب آپ سے آخر وقت میں وصیت کرنے کا کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں چھوڑے جا رہا کہ جس کی وصیت کروں۔ ہاں! البتہ بعض کتب میں اس کے خلاف کچھ یوں ہے کہ آپ نے خالد اور عبد الواحد کو وصیت کی۔ طبقات الکبریٰ میں ہے ”و اوصی الی خالد بن الحارث و عبد الواحد بن زیاد“ ترجمہ: خالد بن حارث اور عبد الواحد بن زیاد کو وصیت جاری کرنے کیلئے مقرر کیا۔

(طبقات الکبریٰ، الطبقة السابعة، جلد 6، صفحہ 361، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

خالد بن حارث کون تھے؟

خالد بن حارث امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے بچوں کے ماموں تھے۔ اخبار ابی حنیفہ میں ہے ”و زفر هو زوج اخت خالد بن الحارث و مات فی اول خلافة المہدی سنة ثمان و خمسين و مائة۔“ ترجمہ: امام زفر خالد بن حارث کی بہن کے شوہر تھے۔ (اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ، اخبار ابی ہذیل، جلد 1، صفحہ 112، عالم الکتب، بیروت)

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا حلیہ مبارک

آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی ظاہر شکل و صورت عجمیوں جیسی تھی جبکہ زبان مبارک عربیوں جیسی تھی۔ اخبار ابی حنیفہ میں ہے ”فکان وجهه یشبہ و جوفه العجم لأمه و لسانه یشبہ لسان العرب قال فحضر مجلس الحجاج بن ارطاة و کان یتوالی القضاء بالکوفة“ ترجمہ: امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) خدو خال میں عجمیوں سے مشابہہ تھے جبکہ بول چال عربیوں کے مشابہہ تھی۔ آپ حجاج بن ارطاة (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی مجلس

میں آئے، کوفہ کے قاضی مقرر ہوئے۔

(اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ، جلد 1، صفحہ 112، عالم الکتب، بیروت)

رہی یہ بات کہ امام زفر عربی النسل تھے یا عجمی تو اس میں عبارتوں اور جغرافیائی اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) عجمی نسل ہیں، حقیقت میں عربی نسل نہیں اگرچہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت سے خوب واقف اور اس پر مہارت تامہ رکھتے تھے۔ آپ عجمی تھے، حقیقت میں عربی النسل نہ تھے اس کی حقیقت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ بعض مقامات پر دیکھنے کو ملا کہ آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی ولادت عراق میں ہوئی تھی اور عراق عرب کے جغرافیائی نظام کے تحت عرب کے بلاد میں شامل نہیں۔ سیرت رسول عربی میں ملک عرب کا جغرافیہ بیان کرتے ہوئے مصنف سیرت رسول عربی تحریر فرماتے ہیں ”ملک عرب براعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ چونکہ اس کو تین طرف سے تو سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرے کی طرح گھیرا ہوا ہے اس لئے اسے جزیرہ عرب کہتے ہیں۔ اس کے شمال میں بلاد شام و عراق ہیں۔ مغرب میں بحر احمر یعنی بحیرہ قلزم، جنوب میں بحر ہند اور مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فارس ہیں۔“

(سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صفحہ 11، ضیاء القرآن، لاہور)

ابتدائی تعلیم کے مراحل

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا تعلق چونکہ ایک خوشحال گھرانے سے تھا، لہذا انہیں ان مصائب سے دوچار نہیں ہونا پڑا جن سے دوسرے لوگ دوچار ہوتے ہیں اور انہیں پوری دلچسپی اور اطمینان قلب کے ساتھ تحصیل علم کا موقع ملا، انہوں نے اولاً اپنے مقام پر ابتدائی علوم حاصل کئے۔ قرآن کریم حفظ کیا پھر جب ان کے والدین انہیں لے کر اصیہاں گئے تو انہوں نے وہاں کے محدثین اور دیگر اہل علم سے علم حاصل کیا۔ ”وظیفہ زفر“ میں

من مناہل العلم، اور آپ علم کے چشموں سے سیراب ہونے لگے۔

ایک مصنف امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی سیرت پر کچھ یوں لکھتے ہیں کہ ”وكانت أسيرة زفر على جانب من سعة الرزق وبحبوحة العيش، وهو ما ساعده على الانصراف إلى طلب العلم دون أن يشغل نفسه بأعباء الحياة، فحفظ القرآن صغيراً واستقام به لسانه، وتفتحت مواهبه واستعدت لطلب العلم، ومالت نفسه ورغبت في تلقي الحديث النبوي“ عبارت کا مفہوم یہی ہے کہ امام زفر کے گھر میں رزق کی کوئی کمی نہ تھی بلکہ خوشحالی تھی جس کی وجہ سے آپ معاشی فکروں میں مبتلا نہ ہوئے بلکہ علم دین کی طلب میں مصروف رہے، قرآن حفظ کیا، حدیث نبوی کی طرف طبیعت میلان تھا۔

وسيلة الزفر کے مقدمہ میں ہے ”نشأ الامام زفر في بيت علم ورئاسة وسلطان ذلك ان والده كان والياً على أصبهان وقد وجه ابنه الى طلب العلم وما ان شب زفر حتى شرح الله صدره لحفظ القرآن الكريم ثم اشتغل بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى صار من أئمة المحدثين ثم اشتغل بالفقه على يد الامام أبي حنيفة حتى صار أقرس أصحابه كما كان له الفضل في نشر مذهبه في البصرة“ ترجمہ: امام زفر ایک علمی حکومتی منصب کے حامل گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اصیہان کے گورنر تھے۔ آپ کے والد کی تربیت نے آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی تمام تر توجہ کا مرکز تحصیل علم دین بنا دیا۔ امام زفر جوں جوں جوانی کی طرف بڑھنے لگے اللہ عزوجل نے اپنی رحمت سے حفظ قرآن کیلئے آپ کا سینہ کھول دیا۔ حفظ قرآن کے بعد آپ حدیث رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی تحصیل میں ایسے

مصرف عمل ہوئے کہ امام احمد شین کے درجے پر فائز ہو گئے۔ پھر جناب امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی خدمت میں رہ کر فقہ سیکھنے میں مشغول ہو گئے حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کے تمام شاگردوں میں سب سے زیادہ قیاس کرنے والے تھے جیسا کہ بصرہ میں فقہ ابی حنیفہ کو پھیلانے میں آپ کا کردار سر فہرست ہے۔

(وسيلة الزفر، المبحث الاول، ترجمة الامام زفر، صفحہ 36-35، دار خضر، بیروت)

خليفة أبي حنيفة (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

امام اعظم ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے ہجری 150 بمطابق سن عیسوی 767 کو وفات پائی اور اپنے حلقہ درس میں زفر بن ہذیل (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) جیسا نایاب موتی چھوڑا کہ آپ کی وفات کے بعد امام اعظم کے تمام کے تمام تلامذہ نے بغیر کسی اختلاف کے اتفاق رائے کے ساتھ امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے درس کی جگہ امام زفر بن ہذیل کا انتخاب کیا کیونکہ امام ابو حنیفہ ایسے مقام پر فائز تھے کہ آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حلقہ درس کے لئے کم از کم ایسے کا ہونا ضروری تھا کہ جو علم و فضل میں امام جیسا نہ بھی ہو مگر ایسا ضرور ہو کہ جس سے لوگوں کی تشفی ہو سکے اس ضرورت کے پیش نظر آپ کو اتفاق رائے سے درس کے لئے چنا گیا جیسا کہ ایک مصنف نے بھی کچھ یوں ہی بیان کیا کہ "ثَوْفِي أَبُو حَنِيفَةَ

النعمان سنة 150 هـ، 767ء، وخلفه في حلقته زفر بن الهذيل بإجماع تلامذة الإمام دون معارضة، فمكأنه لا يملؤها إلا من هو جدير بها علماً وفضلاً، وليس في المكان معنمة يسطو عليه القوى وإن كان غير مستحق، وإنما مكان الإمام مسئولية حسيمة ينصرف عنها أفذاذ العلماء لمكانة صاحبها السابق في العلم والفقه"

❁ فصل ثانی: امام زفر (رضی اللہ عنہ) اور ان کے اساتذہ ❁

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں کتب تراجم خاموش ہیں البتہ ان سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعلیم کا آغاز محدثین کی آغوش میں ہوا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت سے متعلق کتب کی خاموشی فقط ان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دیگر اجلہ محدثین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کے بھی ابتدائی حالات کی واقفیت بہت کم دستیاب ہے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے کن اساتذہ سے پائی اس تعلق سے کچھ کہہ پانا مشکل ہے لیکن کتب سیر و تراجم میں اس کا ذکر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے زمانہ کے جلیل القدر محدثین و فقہاء سے علم حاصل کیا جن میں محدث کوفہ امام اعمش، یحییٰ بن سعید انصاری، سعید بن ابی عروبہ، اسماعیل بن ابی خالد، محمد بن اسحاق اور ایوب سختیانی سرفہرست ہیں۔ ایک مصنف امام زفر کی سیرت پر کچھ یوں لکھتا ہے کہ ”ورغبت فی تلقی الحدیث النبوی، فتردد علی حلقاتہ واتصل بشیوخہ الأبرار، ویأتی فی مقدمتهم محدث الکوفۃ سلیمان بن مہران المعروف بالأعمش، ویحییٰ بن سعید الأنصاری، وسعید بن أبی عروبۃ، وإسماعیل بن أبی خالد، ومحمد بن إسحاق، وأیوب السختیانی۔“

علم حدیث و فقہ کی اہمیت ہر علم والے پر روز روشن کی طرح واضح ہے، اس تعلق سے کچھ کہنا تحصیل حاصل ہے۔ امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) جس دور میں تھے وہ دور تدوین حدیث کا دور تھا اور محدثین کرام ”جزاہم اللہ خیراً“ حدیث رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جمع و تدوین میں مصروف تھے۔ امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے بھی رواج عام کے مطابق علم حدیث کی تحصیل کی طرف توجہ کی اور حافظ ذہبی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے الفاظ میں اس

میں اتقان و پختگی حاصل کر لی۔ وسیلۃ الزفر کے مقدمہ میں بھی ہے ”لقد أخذ الامام زفر العلم عن أكثر علماء عصره ومن أشهرهم: الأعمش، والحجاج بن أرطاة، وأيوب السختیانی، ومحمد بن اسحاق، والامام أبو حنیفة“ ترجمہ: امام زفر نے زیادہ تر علم اپنے معاصرین ہی سے حاصل کیا جس میں مشہور و معروف اعمش، حجاج بن ارطاة، ایوب سختیانی، محمد بن اسحاق اور امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سرفہرست ہیں۔

(وسیلۃ الزفر، المبحث الاول، ترجمۃ الامام زفر، صفحہ 36، دار خضر، بیروت)

امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا تعارف

امام ابو حنیفہ کے تعلق سے کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ بھلے ہی کچھ لوگ آج ان کے علم حدیث کے تعلق سے سوال اٹھائیں لیکن حافظ ذہبی جیسے لوگوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ امام اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) حدیث کے میدان کیا تھے۔ جہاں تک فقہ کی بات ہے تو اس سلسلے میں چند احمقوں، بے وقوفوں، بد مذہبوں اور غیر مقلدوں کو چھوڑ کر ان کی فقاہت پر امت کا اتفاق بلکہ اجماع ہے۔ فقہ کی باضابطہ تدوین کا شرف پہلے جس شخصیت کو حاصل ہوا وہ امام ابو حنیفہ (رحمۃ اللہ علیہ) کی ذات ہے۔ حضرت امام شافعی (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں ”من اراد الفقه فهو عیال علی ابی حنیفہ“ ترجمہ: فقہ سیکھنے والا امام ابو حنیفہ کا محتاج ہے۔ یہ قول بھی امام شافعی (رحمۃ اللہ علیہ) سے مروی ہے ”الناس کلہم فی الفقه عیال ابی حنیفہ“ ترجمہ: تمام لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ اس کا اعتراف امام جلال الدین سیوطی شافعی (رحمۃ اللہ علیہ) نے بھی کیا، آپ فرماتے ہیں ”انہ اول من دون علم الشریعة ورتبہا ابو ابان ثم تبعہ مالک ابن انس فی ترتیب الموطا ولم یسبق ابی حنیفہ احد“ ترجمہ: امام ابو حنیفہ (رحمۃ اللہ علیہ) پہلے

شخص ہیں جنہوں نے علم شریعت کی تدوین کی اور اسے ابواب پر مرتب کیا، پھر مؤطا کی ترتیب میں امام مالک (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے انہی کی پیروی کی۔ امام ابوحنیفہ سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔

امام ابن حجر مکی (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں ”انہ اول من علم الفقہ ورتبہ ابوابا و کتابا علی نحو ماہو علیہ الیوم و تبعہ مالک فی مؤطاءہ“ ترجمہ: امام ابوحنیفہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم فقہ کو مدون کیا اور کتاب اور باب پر اس کو مرتب فرمایا جیسا کہ آج موجود ہے اور امام مالک نے اپنی مؤطا میں انہیں کی اتباع کی ہے۔

امام اعمش (رحمۃ اللہ علیہ) کا تعارف

امام اعمش کا پورا نام ابو محمد سلیمان بن مہران اعمش کوفی ہے۔ دنیاوند میں ہجری 60ھ میں پیدا ہوئے جبکہ سیر اعلام وغیرہ میں 61ھ کی بھی روایت ہے۔ کوفہ میں ہائش اختیار کی۔ سیر میں ہے ”وَقَدِمُوا بِهِ إِلَى الْكُوفَةِ طِفْلًا“ اور 148ھ جبکہ بعض نے 149ھ ان کی وفات بیان کی ہے جیسا کہ وسیلۃ الزفر کے تحقیقی مقدمہ میں ہے۔

(مقدمہ وسیلۃ الزفر، ترجمۃ الامام زفر، صفحہ 36، دار خضر، بیروت)

امام اعمش تابعی ہیں۔ انہیں حضرت انس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی روایت (زیارت) اور ان سے روایت دونوں کا شرف حاصل ہے۔ اسی کتاب میں ہے ”قَدْ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَحَكِي عَنْهُ، وَرَوَى عَنْهُ“ ترجمہ: انہوں نے حضرت انس بن مالک (صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی زیارت کی، ان سے حکایت و روایت دونوں کی۔

(سیر اعلام النبلاء، الاعمش، جلد 6، صفحہ 344، دار الحديث القاهرة)

حافظ ذہبی نے ان کو الامام، شیخ الاسلام، شیخ المقرئین والمحدثین کے

گراں قدر القاب سے یاد کیا ہے جب کہ امام یحییٰ بن قطان ان کے بارے میں کہتے ہیں ”ہو علامة الاسلام“ وہ اسلام کی علامت ہیں اور امام وکیع (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے ہے کہ ستر سال تک امام اعمش کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ”وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ: هُوَ عَلاَمَةُ الْإِسْلَامِ قَالَ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ: كَانَ الْأَعْمَشُ قَرِيبًا مِنْ سَبْعِينَ سَنَةً لَمْ تَفُتْهُ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى“ ترجمہ: یحییٰ قطان کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی نشانی ہیں۔ وکیع بن حراج کہتے ہیں کہ امام اعمش کی تقریباً ستر سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی۔

(سیر اعلام النبلاء، الاعمش، جلد 6، صفحہ 344، دار الحديث القاهرة)

محمد بن اسحاق کاتعارف

سیرت ومغازی پر سب سے پہلی تصنیف محمد بن اسحاق کی ہے۔ الطبقات الكبرى میں ہے ”وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ مَغَازِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَهَاءُ“ ترجمہ: محمد بن اسحاق نے سب سے پہلے رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی سیرت ومغازی کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں تالیف کیا۔

(طبقات الكبرى، الطبقة الخامسة، جلد 1، صفحہ 401، مكتبة العلوم - المدينة المنورة)

محمد بن اسحاق 151ھ میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ”تُوفِّيَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَمِائَةً وَكَانَ كَثِيرَ الْحَدِيثِ“ ترجمہ: محمد بن اسحاق 151ھ میں فوت ہوئے۔ انہیں کثرت سے احادیث یاد تھیں۔

(طبقات الكبرى، الطبقة الخامسة، جلد 1، صفحہ 402، مكتبة العلوم، المدينة المنورة)

حجاج بن ارطاة بن ثور نخعی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

فقہ وحدیث دونوں میں ان کا بڑا مقام ہے۔ خاص طور پر فقہ میں حجاج بن ارطاة (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی عظمت و شان قابل تعریف ہے۔ آپ کو فی ہیں۔ ان کو مفتی کوفہ کا

لقب دیا گیا تھا۔ بصرہ کے قاضی مقرر ہوئے۔ تاریخ بغداد میں ہے ”أبو أرطاة كَانَ فقيهاً، وَكَانَ أَحَدَ مُفْتَى الْكُوفَةِ“ ترجمہ: ابوارطاة فقیہ تھے اور کوفہ کے مفتی تھے۔

(تاریخ بغداد، حجاج بن ارطاة، جلد 9، صفحہ 133، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

حجاج بن ارطاة بن ثور نخعی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی خراسان میں 145ھ کو وفات

ہوئی۔

(مقدمہ وسیلة الزفر، ترجمة الامام زفر، صفحہ 36، دار خضر، بیروت)

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے اساتذہ کرام کا یہ ایک مختصر تعارف تھا اس کے علاوہ بھی امام زفر کے اساتذہ میں اور بھی بہت سے نام ہیں جیسے یحییٰ ابن سعید انصاری، یحییٰ بن عبد اللہ تیمی، اسماعیل بن ابی خالد، ایوب سختیانی، زکریا بن ابی زائدہ، سعید بن ابی عروبہ جیسا کہ لمحات النظر مطبوعہ مکتبہ ازہریہ، تراث بیروت کے صفحہ 13 پر اس کی تصریح موجود ہے۔ ان ناموں کے علاوہ اور بھی کئی ایسے فاضلین ہیں جو امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے اساتذہ کی فہرست کی زینت کا حصہ ہیں مگر بخوف طوالت ان کا احاطہ کرنے سے گریز برتا گیا ہے۔ لیکن اختصار کی غرض سے یہاں صرف تین چار نام ہی کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کئے گئے ہیں۔ ان ناموں میں خاص طور پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان میں ممتاز اور زجلیل القدر فقہاء و محدثین شامل ہیں۔

شاگردانِ امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

ایک دور وہ ہوتا ہے جب انسان کسی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتا ہے اور دوسرا دور وہ ہوتا ہے جب کوئی دوسرا انسان اس کے علوم سے خوشہ چینی کرتا ہے۔ علم سے تعلق اور اشتغال رکھنے والوں کیلئے یہ دونوں مراحل لازمی ہیں۔ امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے تحصیل علم کرنے والوں کی بھی ایک بڑی فہرست ہے جس کا استیعاب اور احاطہ اس

مختصر موضوع میں ممکن نہیں ہے۔ آپ کے جلیل القدر شاگردوں میں سے ایک شقیق بن ابراہیم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہیں جو انتہائی عابد و زاہد ہونے کے ساتھ ساتھ علم سے بھی بہرہ ور تھے۔ چنانچہ لمحات النظر میں ہے ”وعن شقیق قال اخذت لباس الدون عن سفیان واخذت الخشوع من اسرائیل واخذت العبادة من عباد بن كثير والفقہ من زفر“ ترجمہ: شقیق بن ابراہیم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کہتے ہیں: میں نے لباس عاجزی سفیان سے، خشوع اسرائیل سے، عبادت عباد بن کثیر سے اور فقہ امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے سیکھی۔ (لمحات النظر، المكتبة الاظهرية، التراث، بیروت)

ان کے علاوہ جن دوسروں نے امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے حدیث و فقہ کی تحصیل کی ہے ان کے اسمائے گرامی مختصر بیان کئے جا رہے ہیں:۔ (1) حَسَّانُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْكُرْمَانِيُّ (2) وَ اَكْثَمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ اَلِدُّ يَحْيَى بْنُ اَكْثَمٍ (3) وَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، (4) وَ اَبُو نُعَيْمٍ الْمُطَّلَبِيُّ (5) وَ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ التَّيْمِيُّ (6) وَ الْحَكَمُ بْنُ اَيُّوبَ (7) وَ مَالِكُ بْنُ قُدَيْكٍ (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْاَنْصَارِيُّ الْقَاضِي (9) شَدَادُ بْنُ حَكِيمٍ (10) نَعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ (11) اَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ اور دیگر فقہاء و محدثین۔ لمحات النظر میں ہے ”وَمِمَّنْ اخذ عن زفر عبد الله بن المبارك وشقيق بن ابراهيم، ومحمد بن الحسن وو كيع بن الجراح وسفيان ابن عيينة وابو علي عبيد الله بن عبد المجيد البصري“ ترجمہ: امام زفر سے شرف تلمذ حاصل کرنے والوں میں عبد اللہ بن مبارک، شقیق بن ابراہیم، محمد بن حسن، وکیع ابن جراح، سفیان ابن عیینہ، ابو علی عابد اللہ بن عبد المجید بصری بھی شامل ہیں۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) (لمحات النظر، صفحہ 13، المكتبة الاظهرية، التراث، بیروت)

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) جب علم حدیث کے میدان میں کمال درجہ کی مہارت حاصل کر چکے تو علم کے شیدائی ان کی جانب متوجہ ہوئے اور ان سے رسول پاک (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی احادیث سیکھنے میں ہمہ تن مشغول ہو گئے جن میں مشہور و معروف چند حضرات گرامیوں میں ابو نعیم اصفہانی، حسان بن ابراہیم، اکثم بن محمد (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) ہیں اور جو حافظ کبیر عبد اللہ بن مبارک (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے بارے جانتا ہے کہ وہ کس قدر بلند پایہ صوفی بزرگ تھے تو اسے امام زفر کی علم میدان میں مہارت تامہ و بلند پایہ درجہ پر فائز ہونے کو سمجھنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ عبد اللہ بن مبارک (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) جیسے حافظ کبیر بھی ان کے شاگردوں کی صف میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وکیع بن جراح، خالد بن حارث بھی انہی کے تراشے ہوئے نایاب موتی ہیں۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا ملا کہ ”ولما رسخت قدمه في السنة أقبل عليه طلاب العلم يتعلمون على يديه، ويروون عنه أحاديث رسول الله (صلی اللہ علیہ وسلم)، ومن أشهر هؤلاء: أبو نعیم الأصبهانی، وحسان بن إبراهيم، وأکثم بن محمد، وحسبك أن يكون عبد الله بن المبارك الحافظ الكبير، ووکیع بن الجراح وخالد بن الحارث ممن تلمذوا على يديه وجلسوا في حلقاته“ مفہوم عبارت وہی ہے جو اوپر بیان کر دیا گیا۔

امام زفر (رضی اللہ عنہ) کے مفتی بہ مسائل کی کمی کی وجہ

آج کل کے کچھ بے باک و بے لگام اور بے وقوف لوگ امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے، اور جب امام اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے اس شاگرد اعظم کا ذکر آتا ہے تو چہ گوئیاں شروع کر دیتے ہیں جیسا کہ خود اقدم الحروف نے

ایک دوسے ان کے بارے نازیبا کلمات سنے جو یہاں نہیں بلکہ اسی کتاب کے کسی اور مقام پر یا پیش لفظ میں عرض کروں گا کہ وہ کلمات فقیر کے لئے کس قدر تکلیف و ایذا کا باعث بنے۔ بہر کیف مجھے آئمہ حضرات (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) پر اندھے ہو کر اعتراض کرنے والوں اور پانگلوں سے کچھ مطلب نہیں، محض اپنے ان مسلمان بھائیوں اور اہل علم اور بالخصوص اپنے دینی مدارس کے طلباء کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوال (کہ امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے اس قدر کم مسائل مفتی بہ کیوں ہیں؟ امام یوسف و امام محمد (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کی مثل زیادہ مشہور کیوں نہ ہو پائے) کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ صرف مشہور ہونا ہی کسی کے قابل ہونے کی دلیل تام نہیں کہ جو مشہور نہ ہو سکے اسے ناقص قرار دیا جائے یہ نہ کہے گا مگر مجنون یا جاہل۔ یاد رہے کہ امام اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی موجودگی میں فقط امام اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہی کا قول چلتا تھا، ہر طرف انہی کے جرحے تھے، ان کے باوفا شاگرد بھی کوئی بات کوئی مسئلہ کہیں بیان کرتے تو سامنے والے کے دل میں اتارنے کے بعد یہ بیان کر دیتے کہ یہ مسئلہ اس کی بیان کردہ دلیل امام ابو حنیفہ ہمارے استاد کی ہے (اللہ کرے کہ آج کے شاگردوں میں بھی یہ وصف پیدا ہو جائے) بہر کیف وقت ایسے ہی گزرتا گیا حتیٰ کہ امام اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی وفات کا وقت آپہنچا اور علم کے شیدائی ان سے محروم ہو گئے۔ اب فقہ حنفی اور امام اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی تعلیمات کو عام کرنے کی ذمہ داری اور لوگوں کے نوپید مسائل کا حل تلاش کرنے کا بوجھ بھی آپ ہی کے شاگردوں پر رہا اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک ہی وقت میں علم کی جستجو رکھنے والوں کو سیراب کرنا اور ساتھ ساتھ لوگوں کے نئے سے نئے پیچیدہ مسائل کا حل بھی تلاش کرنا مزید برآں یہ کہ مخالفین کے اعتراض کے جواب دینا اور فقہ حنفی کے خلاف وساوس کے

شکار کی بھی تشفی کرنا اور معمولات زندگی بھی پورے کرنا کتنی عظیم و مشکل ترین ذمہ داری ہے اسے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر جب امام اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا انتقال ہوا تو امام اعظم کے حلقہ درس میں بیٹھنے والوں کی تمام تر توجہ کامرکز بھی امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہی تھے ابھی امام اعظم کے انتقال کا غم اور ان کا خلاء جو بھرا بھی نہ تھا اگرچہ حقیقت میں اسے کوئی پورا بھی نہیں کر سکتا تھا کہ امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔

اب ہم ان تمہیدی کلمات کے بعد فقہ حنفی کے آئمہ بشمول امام اعظم کا وقت وفات بیان کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کس امام کو اپنے استاد محترم امام اعظم کے بعد کس قدر وقت مل سکا، کتب تاریخ میں موجود ہے کہ امام اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہجری ایک سو پچاس میں فوت ہوئے۔ ابو زکریا یحییٰ بن ابراہیم بن احمد بن محمد ابو بکر بن ابی طاہر لکھتے ہیں ”توفی ابو حنیفہ سنۃ خمسین و مائة۔“ ترجمہ: ابو حنیفہ کی وفات 150ھ میں ہوئی۔

(سنازل الأئمة الأربعة، الباب الرابع، جلد 1، صفحہ 168، مكتبة الملك فهد الوطنية)

امام ابو یوسف (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا وقت وفات 182ھ ہے۔ شمس الدین ابو

عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی (المتوفی: 748ھ) میں ہے ”قَالَ بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ: تُوْفِيَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِخَمْسٍ خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَمِائَةً۔“ ترجمہ: بشر بن ولید کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف کی وفات جمعرات کو ربیع الاول میں 182ھ میں ہوئی۔

(مناقب الامام ابی حنیفہ، صفحہ 74، إحياء المعارف النعمانية، حيدر آباد الدکن بالهند)

یعنی امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کی رحلت کے

بعد تقریباً 32 سال حیات رہے جبکہ امام محمد (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی وفات 189ھ یعنی

امام محمد اعظم کی وفات کے بعد 39 سال مخلوق خدا کو اپنے فیض کی برکتیں لٹاتے رہے جبکہ ان کے مقابلے میں امام زفر کا وقت وفات 158ھ ہے جیسا کہ الجواہر میں ہے "وَتُوفِيَ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَةً وَلَهُ ثَمَانٌ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً" ترجمہ: آپ بصرہ میں 158ھ میں فوت ہوئے اور آپ کی عمر مبارک 48 سال ہوئی۔ یعنی امام زفر امام ابوحنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے بعد فقط آٹھ برس تک زندہ رہے تو کہاں 32 اور 39 کا سال کا طویل دورانیہ اور ان کے مقابل کہاں آٹھ سال کا قلیل وقت۔ یعنی امام اعظم کی جدائی کے بعد ایک طویل عرصہ کام کرنے کا موقعہ جو امام ابو یوسف اور امام محمد کو ملا وہ امام زفر کو نہ مل سکا۔ جس کی وجہ سے وہ معرکہ الاراء کام جو صاحبین نے دیئے اور وہ دینی ذخیرہ جو انہوں نے چھوڑا وہ امام زفر سے قلیل عمر میں نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ امام زفر کے مسائل کتب میں کم ملتے ہیں جس کی وجہ سے بعض نادان امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے معاملے اور ان کے اختلاف کو اس قدر اہمیت نہیں دیتے۔

ظاہر ہے کہ امام ابو یوسف عہدہ قضا پر بھی رہے اور ایک طویل عرصہ حیات رہے اور ان سے زیادہ امام محمد جس کی وجہ سے ان کے سامنے افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد، ان کے معاملات، نوپید مسائل آتے رہتے جبکہ امام زفر کو قضا و قدر نے زیادہ مہلت نہ دی جس کی وجہ سے کم علم لوگ آج انہیں ہلکا لیتے ہیں۔ اللہ (عز و جل) اس سے محفوظ فرمائے۔ جیسا کہ حافظ ذہبی کہتے ہیں "من مات قبل اوان الرواية" یعنی ان سے دوسرے حدیث کی روایت کریں۔ یہ مرحلہ آنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے زیادہ مشہور نہ ہونے کی وجہ
حقیقت یہ ہے کہ اپنے علم و فضل اور ملکہ اجتہاد میں امام ابو یوسف اور امام محمد سے کم

نہ تھے؛ بلکہ قیاس میں تو یہ صاحبین (امام ابو یوسف اور امام محمد) سے کچھ آگے ہی تھے، عام تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ ”أَحَدُهُمْ قِيَاساً“ امام صاحب کے تلامذہ میں قیاس کرنے میں سب سے زیادہ تیز تھے؛ لیکن اس استعداد و صلاحیت کے باوجود اتنے مشہور نہیں ہوئے جتنے کہ صاحبین ہوئے، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ صاحبین میں ملکہ اجتہاد کے ساتھ قوت تحریر اور تصنیف و تالیف کی صلاحیت بھی تھی اور انہوں نے اپنی تحریری یادگاریں بھی چھوڑی تھیں، اس لیے دنیا نے ان کے علم و فضل کو زیادہ جانا جبکہ امام زفر ایسی تحریری یادگار نہیں چھوڑ گئے کہ دنیا ان کے فضل و کمال کا پورا اندازہ کرتی اور اسی وجہ سے نہ تو ان کے خیالات اسے زیادہ پھیل سکے جتنے ان دونوں بزرگوں کے پھیلے اور نہ ان کو وہ شہرت ہوئی جو صاحبین کو ہوئی۔ اور مناقب کردری میں بالتصریح موجود ہے کہ آپ لکھتے بہت کم تھے ”کان زفر قليل الكتابة يحفظ بالسمع حسن القياس“ ترجمہ: امام زفر لکھتے بہت کم تھے، وہ جو کچھ سنتے تھے اسے حافظہ میں محفوظ کر لیتے تھے اور بہترین قیاس کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا حافظہ کس قدر غضب کا تھا۔

ہاں البتہ حاکم نے ”علم حدیث“ میں ان کی دو کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، لکھتے ہیں

”ان لزفر نسختین فی الحدیث احدهما رواية ابی وهب والاخری روايته شداد بن حکم“ ترجمہ: حدیث میں امام زفر کی دو کتابیں ہیں: ایک روایت ابی وهب اور دوسری روایت شداد بن حکم۔ (لمحات النظر، صفحہ 13، المكتبة الزهرية، للتراث، بیروت)

معرفة علوم الحدیث میں بھی اس سے متعلق ہے کہ ”نُسَخَةُ لَزْفَرِ بْنِ الْهَدَّادِ

الْجُعْفِيِّ تَفَرَّدَ بِهَا شَدَّادُ بْنُ حَكِيمٍ الْبَلْخِيُّ، وَنُسَخَةُ أَيْضًا لَزْفَرِ بْنِ الْهَدَّادِ

الْجُعْفِيِّ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو وَهْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاهِمٍ الْمَرْوَزِيُّ“ ترجمہ: حدیث میں امام زفر

کے دو مجموعے ہیں، ایک کے راوی ابو وہب اور دوسرے کے راوی شداد بن حکم ہیں۔

(معرفة علوم الحديث، ذکر النوع الثامن والثلاثين، جلد 1، صفحہ 163، دار الكتب العلمية، بيروت)

❁ فصل ثالث: امام زفر، فقہ حنفی، اور امام اعظم ❁

امام ابو حنیفہ کے دامن فقہ سے وابستہ ہونے کی وجہ

ان کی ذہانت اور طلب علم کی لگن محض تحدیث روایت پر اکتفا نہ کر سکی بلکہ امام
المحدثین کا لقب پانے کے بعد ان کو امام ابو حنیفہ کے درس فقہ تک کھینچ لائی۔ تقریباً تمام
مترجمین اور مورخین نے امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے محدثین کی جماعت سے الگ ہو کر
فقہاء کی جماعت اور بطور خاص امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے دامن فقہ سے وابستہ
ہونے کی وجوہات تفصیل کے ساتھ کچھ یوں بیان کیں ہیں کہ امام زفر ابتداءً محدثین کی
خدمت میں تحصیل علم کے لیے جایا کرتے تھے، ایک دن ایک مسئلہ ایسا پیش آیا کہ جسے ان
کے شیوخ حل نہ کر سکے، وہ ناچار امام اعظم کی خدمت میں آئے اور مسئلہ دریافت کیا، امام
صاحب نے اس کا جواب دیا؛ مگر امام زفر اس سے مطمئن نہیں ہوئے اور کتاب و سنت سے
اس کی دلیل پوچھی، امام اعظم نے اپنے دستور کے مطابق فرمایا کہ یہ مسئلہ فلاں حدیث سے
ماخوذ ہے اور اس کے عقلی دلائل یہ ہیں پھر امام اعظم نے فرمایا کہ اگر مسئلہ کی صورت یہ ہو تو
پھر جواب کیا ہوگا؟ امام زفر نے کہا کہ اس صورت کا سمجھنا تو میرے لیے پہلی صورت سے
بھی زیادہ دشوار ہے، امام صاحب نے اس کا بھی جواب عنایت فرمایا، اس کے بعد امام
اعظم نے کچھ اور مسائل پر روشنی ڈالی، امام زفر کا بیان ہے کہ میں امام اعظم کی مجلس سے بخوشی
خوشی واپس ہوا اور اپنے اصحاب حدیث کے سامنے ان مسائل کو رکھا کہ وہ ان کا جواب دیں
مگر وہ کسی مسئلہ کا کوئی جواب نہیں دے سکے، میں نے پھر تمام مسائل کے جوابات اور ان

کے دلائل ان پر بیان کئے تو وہ حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا کہ یہ باتیں تمہیں کہاں سے معلوم ہوئیں، میں نے بتایا کہ امام ابوحنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی مجلس درس میں، اس کے بعد سے میں اپنے ساتھیوں میں اس الحلقہ سمجھا جانے لگا۔ اس کی حتمی معلومات ہمیں امام طحاوی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) سے معلوم ہوتی ہیں۔ کیونکہ امام طحاوی قریب العہد ہیں اور بطور خاص فقہاء احناف میں پر اعتماد اور قابل سند ہیں لہذا اس بارے میں ان کی بات سب سے زیادہ معتبر اور قابل وثوق ہوگی۔ امام طحاوی کہتے ہیں ”أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّدُوسِيُّ قَالَ أُنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الدَّمَغَانِيُّ الْفَقِيهَ قَالَ أُنْبَأَ الطَّحَاوِيُّ قَالَ أُنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهَبٍ قَالَ كَانَ سَبَبَ انْتِقَالِ زُفَرٍ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَنَزَلَتْ بِهِ وَأَصْحَابُهُ مَسْأَلَةً فَأَعِيتَهُمْ فَأَتَى أَبَا حَنِيفَةَ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَأَجَابَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا قَالَ لِحَدِيثٍ كَذَا وَلِلْقِيَاسِ مِنْ جِهَةٍ كَذَا ثُمَّ قَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فَلَوْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ كَذَا مَا كَانَ الْجَوَابُ فِيهَا قَالَ فَكُنْتُ فِيهَا أَعْمَى مَنِي فِي الْأُولَى فَقَالَ الْجَوَابُ فِيهَا كَذَا مِنْ جِهَةٍ كَذَا ثُمَّ زَادَنِي مَسْأَلَةٌ أُخْرَى وَاجَابَنِي فِيهَا وَبَيْنَ وَجْهَهَا قَالَ فَرَحْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَسَأَلْتَهُمْ عَنِ الْمَسَائِلِ فَكَانُوا فِيهَا أَعْمَى مَنِي فَذَكَرْتُ لَهُمُ الْجَوَابَ وَبَيَّنْتُ لَهُمُ الْعِلَلَ فَقَالُوا مَنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا فَقُلْتُ مَنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَصُرْتُ رَأْسَ الْحَلَقَةِ بِثَلَاثِ مَسَائِلٍ ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ“ ترجمہ: امام زفر کے امام ابوحنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی جانب منتقل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اولاً اصحاب حدیث میں سے تھے، کوئی مسئلہ پیش آیا جس کے جواب سے وہ اور ان کے ساتھی عاجز تھے تو وہ امام ابوحنیفہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا۔ انہوں نے اس مسئلہ کا جواب

دیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ جواب کہاں سے اخذ کیا۔ امام ابوحنیفہ نے جواب دیا کہ حدیث یہ ہے اور اس سے قیاس اس طور پر ہوتا ہے۔ پھر امام ابوحنیفہ نے پوچھا اگر فلاں صورت حال پیش آتی تو جواب کیا ہوتا؟ امام زفر کہتے ہیں کہ میں اس بارے میں پہلے سے بھی زیادہ عاجز تھا۔ امام ابوحنیفہ نے ہی فرمایا: اس میں یہ جواب ہوگا اور اس جواب کی وجہ یہ ہوگی پھر امام ابوحنیفہ نے اور بھی چند دوسرے مسائل پوچھے اور ان سب مسائل کے جواب اور ان کے وجوہات بتائے۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا اور ان سے وہ مسائل پوچھے (جو امام ابوحنیفہ نے بتلائے تھے) تو وہ مجھ سے بھی زیادہ عاجز تھے پھر میں نے ان کو ان مسائل کے جواب اور ان کے وجوہات بتائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب تم نے کہاں سے جانا؟ میں نے کہا: ابوحنیفہ سے۔ اس کے بعد محض تین مسائل کی وجہ سے میں اپنی جماعت کا امیر اور سردار ہو گیا۔

(انخبار ابی حنیفہ واصحابہ لصیری، انخبار ابی الہذیل، صفحہ 113، عالم الکتب، بیروت)

(یہ واقعہ ابن فضل اللہ العمری نے بھی مسالک الابصار میں امام طحاوی کے

طریق سے نقل کیا ہے جیسا کہ شیخ زاہد الکوثری نے ذکر کیا ہے۔)

مجلس ابی حنیفہ کے التزام کا باقاعدہ دور مبارک

اس واقعہ کے بعد سے امام زفر بالالتزام امام ابوحنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی مجلس درس میں شامل ہونے لگے اور تقریباً بیس برس تک ان کی خدمت اور رفاقت میں رہے۔ امام ابوحنیفہ کی مجلس درس میں عجیب کشش اور اس کی یہ عجیب خصوصیت تھی کہ جو ایک بار اس میں شریک ہو گیا، پھر کیا مجال کہ وہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جائے۔ امام زفر کے اساتذہ کی تعداد بھی کچھ کم نہیں مگر جو محبت و شیفتگی اور عقیدت ان کو امام اعظم سے تھی وہ کسی سے نہیں

تھی۔ اس میں امام اعظم کے علم و تفقہ اور ان کے مجتہدانہ درس کے ساتھ ان کے عام اخلاق و کردار اور زہد و تقویٰ کا بڑا دخل تھا، خصوصیت سے طلبہ کے ساتھ وہ جس شفقت، حسن سلوک اور مساوات کے ساتھ پیش آتے تھے اور ان کے لیے جو دسوزی کرتے تھے، اس کی مثال دوسری جگہ کم ملتی ہے۔ امام زفر امام اعظم کی زندگی کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتے ہیں ”جالست أبا حنيفة أكثر من عشرين سنة فلم أر أحداً أنصح وأشفق الناس منه، وإنه يبذل نفسه لله تعالى، أمّامة النهار فإنه كان مشغولاً بالمسائل وحلّها وتعليمها فإذا قام من المجلس عاد مريضاً أو شيع جنازة أو واسى فقيراً أو واصل أخاً أو سعى في حاجة فإذا كان الليل خال لل تلاوة والعبادة والصلوة فكان هذا سبيله حتى توفي“ ترجمہ: میں بیس برس سے زیادہ امام ابوحنیفہ کی خدمت میں رہا، میں نے ان سے زیادہ کسی کو عام انسانوں کا خیر خواہ مخلص اور مشفق نہیں دیکھا، وہ صرف خدا ہی کے لیے اپنی طاقت و ہمت خرچ کیا کرتے تھے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا تھا، قریب پورا پورا دن وہ مسائل کے حل اور ان کی تعلیم و تدریس میں لگے رہتے تھے، جب مجلس درس سے اٹھتے تھے تو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے یا کسی جنازہ میں شرکت کرتے یا کسی سے ملاقات کے لیے جاتے یا پھر کسی کی کوئی اور ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتے تھے، جب رات ہو جاتی تو پھر ذکر و تلاوت اور نماز کے لیے اپنے کو یکسو کر لیتے تھے، پوری زندگی انہوں نے اسی طریقہ پر گزار دی۔

(مناقب الامام لکھنوی، فضائل شتی، جلد 2، صفحہ 104، مکتبہ اسلامیہ، کوئٹہ)

یہ عبارت لمحات میں بھی ہے۔

”فنعم الشيخ ذلک الشيخ ونعم التلميذ ذلک التلميذ“ وہ استاد بھی کتنے ہی

اچھے استاد تھے اور وہ شاگرد بھی کتنے ہی اچھے شاگرد تھے۔ سبحان اللہ

امام زفر کا امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے تاثر

امام ابو حنیفہ کے تعلق سے اُس دور میں بھی غلط فہمیاں عام تھیں اور طرح طرح کی باتیں ہوتی تھیں جن کے بقایا جات آج بھی ہم جرح و تعدیل کی کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کسی کے بارے میں سنی سنائی بات پر کوئی رائے قائم کرنے کے بجائے دیکھ اور پرکھ کر رائے قائم کرنا بہتر سمجھا۔ امام ابو حنیفہ سے وابستہ ہونے کے بعد دن بدن امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا تاثر بڑھتا گیا اور یہ تاثر مرور ایام کے ساتھ عقیدت مندی اور ارادت مندی تک پہنچ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بسا اوقات امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی جانب سے دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ”لا تلتفتوا الی کلام المخالفین، فإنه ما قال إلا من الکتاب أو السنة، أو أقاویل الصحابة، ثم قاس علیها“ ترجمہ: امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے مخالفین کی باتوں کی طرف توجہ نہ دو کیونکہ وہ (امام اعظم) جو کہتے ہیں اس کی اصل کتاب، سنت اور اقوال صحابہ ہیں، اس کے بعد وہ قیاس کرتے تھے۔

اور اس ضمن میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ جب شادی کے موقع پر انہوں نے اپنی جانب سے خطبہ پیش کرنے کیلئے امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو چنا تو اس موقع پر ان کے خاندان کے بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ اس موقع پر جب کہ خاندان کے ہی سربراہ آوروں اور شرفاء موجود ہیں تو تم خطبہ کیلئے امام ابو حنیفہ کا انتخاب کیوں کر رہے ہو؟ اس موقع پر امام زفر کا جواب عقیدت مندی اور ارادت مندی کی ایک نایاب مثال ہے۔ انہوں نے معترضین سے کہا کہ اگر اس موقع پر میرے والد بھی حیات ہوتے تو بھی امام ابو حنیفہ کو ہی

خطبہ دینے کیلئے کہتا جیسا کہ اخبار ابی حنیفہ میں ہے، جس کا مزید بیان مع تخریج کے آگے ذکر کیا جائے گا۔

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور رشتہ ازدواج

آپ نے ممتاز محدث خالد بن حارث کی بہن سے نکاح کیا تھا۔

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی اولاد

جیسا کہ گزرا کہ کل 48 سال کی عمر میں وفات پائی، وفات کے وقت امام ابو یوسف موجود تھے، انہوں نے آخری وصیت کی خواہش ظاہر کی، انہوں نے کہا کہ یہ سامان میری بیوی کا ہے اور یہ تین ہزار درہم میرے بھتیجے کے ہیں؛ پھر فرمایا کہ نہ تو مجھ پر کسی کا کوئی حق ہے اور نہ میرا کسی پر کوئی حق ہے۔ (یعنی یہ جو پاس رکھا ہوا ہے، میں اس کا مالک نہیں بلکہ سارا ساز و سامان کسی اور کا ہے۔)

(منقب کردی)

امام زفر کی اولاد تھی یا نہیں؟ مجھے اس حوالہ سے کچھ نہ ملا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

امام ابو حنیفہ کا اپنے شاگرد کے علم و فضل کا اعتراف

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تفقہ اور اجتہاد کی صلاحیتوں سے مالا مال اور بہرہ ور تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے حین حیات میں فقہ و تفقہ میں وہ مقام پیدا کر لیا کہ امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے بھی ان کو ائمۃ المسلمین کے گراں قدر خطاب سے نوازا۔ چنانچہ امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے جب اپنے استاد اور وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ سے اپنے خطبہ نکاح کی عرض پیش کی تو امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے خطبہ نکاح میں کہا ”ہذا زفر بن الہذیل امام من ائمة المسلمين وعلم من اعلامهم شرفه وحسبه وعلمه“ ترجمہ: یہ زفر بن ہذیل مسلمانوں کے امام اور اپنے شرف، خاندان

اور علم کے لحاظ سے ایک قابل قدر شخصیت ہیں۔ (المنتخب، جلد 01، صفحہ 139، بیروت، لبنان)

لمحات النظر والے نے اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد لکھا ”و کفی فی معرفة منزلة زفر فی الفضل قول ابی حنیفة هذا فیہ“ ترجمہ: امام ابو حنیفہ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے امام زفر کی فضیلت کو سمجھنے کے لئے کافی ہے۔

(لمحات النظر، صفحہ 8، المكتبة الازهریة للتراث، بیروت)

بقول امام ابو حنیفہ امام زفر استادوں کے بھی استاد

مناقب امام اعظم للکردی 125/2 اور لمحات النظر میں ہے کہ ”اصحاب

بنا هؤلاء ستة وثلاثون رجلا منهم ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء، ومنهم

ستة يصلحون للفتوى ومنهم اثنان يصلحان يؤدبان القضاة وأصحاب الفتوى

و أشار الی ابی یوسف و زفر“ یعنی ایک بار (امام اعظم نے فرمایا) کہ میرے چھتیس

اصحاب ایسے ہیں جن میں اٹھائیس قاضی ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور چھ مفتی بن سکتے

ہیں اور دو آدمی یعنی ابو یوسف اور زفر قاضیوں اور مفتیوں کی تعلیم و تربیت کا کام کر سکتے ہیں۔

(لمحات النظر، صفحہ 11، المكتبة الازهریة، للتراث، بیروت)

امام زفر (رحمة الله تعالى علیه) اور فقہ حنفی کی خدمت

امام ابو حنیفہ (رحمة الله تعالى علیه) سے امام زفر (رحمة الله تعالى علیه) کو جو عقیدت

تھی اسی کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے علمی طور پر فقہ حنفی کی نشر و اشاعت میں کلیدی رول

ادا کیا اور وہ بھی ایسے مقام پر جہاں کے لوگ کوفہ اور اہل کوفہ کے شدید نکتہ چیں تھے یعنی بصرہ

والے۔ اہل کوفہ اور اہل بصرہ کی دوریاں تاریخ و رجال سے اشتغال رکھنے والوں پر مخفی نہیں

ہوگی، اس بناء پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ امام ابو حنیفہ (رحمة الله

تعالى علیه) کوفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اہل بصرہ کو امام ابو حنیفہ کے تعلق سے ایسا نرم گوشہ کر لیا

اور اس کے لئے ایسی مدلل فقہی اسباحث کرتے کہ وہاں کے لوگ امام زفر (رحمة اللہ تعالیٰ علیہ) کی ذہانت و ذکاوت اور معاملہ فہم کے قائل ہو جاتے ہیں اور جب قائل ہو جاتے تو بتاتے یہ مذہب ابو حنیفہ کا ہے۔ حافظ ذہبی نے بھی سیر اعلام النبلاء 8/41 میں کہا ہے ”قلت: هو من بحور العلم واذکیاء الوقت“ ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ وہ (امام زفر) علم کے سمندر اور وقت کے ذہین ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ امام زفر نے بصرہ میں فقہ حنفی کی نشر و اشاعت کی خدمت کس طرح انجام دی۔ اس بارے میں مناقب الامام الاعظم للکردی میں ہے کہ:-

امام زفر جب بصرہ گئے تو اہل بصرہ ان سے اتنا مانوس ہوئے کہ انہوں نے بصرہ ہو کر ان کو اپنے ہی پاس روک لیا۔ امام زفر عموماً عثمان البتی کی مجالس علم میں شریک ہوتے اور وہاں پر مختلف مسائل کے بارے میں باتیں ہوتیں۔ امام زفر مسئلہ کے حق میں دلائل دیتے اور جب لوگ اس کو قبول کر لیتے تو ان سے پوچھتے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس قول کا قائل کون ہے؟ پھر بتاتے کہ اس قول کے اصل قائل ابو حنیفہ (رحمة اللہ تعالیٰ علیہ) ہیں۔ اس طرح انہوں نے دھیرے دھیرے اہل بصرہ کے قلوب کو امام ابو حنیفہ رضی اللہ کی جانب مائل کیا اور اہل بصرہ جو کبھی کوفیوں اور کوفہ کے ہونے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا نام سننے کے پروا دار نہیں تھے آہستہ آہستہ ان کے قلوب امام ابو حنیفہ (رحمة اللہ تعالیٰ علیہ) کی جانب مائل ہو گئے اور انہوں نے بھی امام ابو حنیفہ کے فقہی اقوال کو اختیار کر لیا۔

یہ واقعہ حافظ ابن عبد البر (رحمة اللہ تعالیٰ علیہ) نے بھی ”الانتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة“ میں امام زفر کے ترجمہ میں ذکر کیا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں ”وَلِیَ قَضَاءِ الْبَصْرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ قَدْ عَلِمْتَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْبَصْرِ مِنَ الْعَدَاوَةِ“

وَالْحَسَدِ وَالْمُنَافَسَةِ مَا أَظْنُكَ تَسْلَمُ مِنْهُمْ فَلَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ قَاضِيًا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَجَعَلُوا يُنَاطِرُونَهُ فِي الْفِقْهِ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ فَكَانَ إِذَا رَأَى مِنْهُمْ قَبُولًا وَاسْتِحْسَانًا لِمَا يَجِيءُ بِهِ قَالَ لَهُمْ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَكَانُوا يَقُولُونَ وَيُحْسِنُ أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا فَيَقُولُ لَهُمْ نَعَمْ وَأَكْثَرُ مِنْ هَذَا فَلَمْ يَزَلْ بِهِمْ إِذَا رَأَى مِنْهُمْ قَبُولًا لِمَا يَحْتَجُّ بِهِ عَلَيْهِمْ وَرَضَى بِهِ وَتَسْلِيمًا لَهُ قَالَ لَهُمْ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَيُعْجَبُونَ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ تَزَلْ حَالُهُ مَعَهُمْ عَلَى هَذَا حَتَّى رَجَعَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَنْ بُغْضِهِ إِلَى مَحَبَّتِهِ وَإِلَى الْقَوْلِ الْحَسَنِ فِيهِ بَعْدَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْقَوْلِ السَّيِّئِ فِيهِ“ ترجمہ:

امام زفر بصرہ کے قاضی بنائے گئے تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا: آپ سے پوشیدہ نہیں کہ بصرہ کے لوگ ہم سے بلا وجہ کی عداوت اور حسد کرتے ہیں لہذا آپ کا سلامت بچ نکلنا دشوار ہے۔ جب بصرہ میں قاضی مقرر ہو کر آئے تو اہل بصرہ جمع ہو کر روزانہ آپ سے فقہی مسائل میں مناظرہ کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے اپنے بیان کردہ مسائل اور ان کے دلائل کی قبولیت اور ان کا اچھا تاثر دیکھا تو کہنے لگے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ اہل بصرہ متعجب ہو کر پوچھتے؟ کیا ابو حنیفہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں؟ امام زفر نے جواباً کہا: جی ہاں! اور اس سے بھی زیادہ۔ اس کے بعد تو معمول سا ہو گیا کہ جب بھی آپ اہل بصرہ کا رجحان تسلیم و انقیاد دیکھتے تو کہہ دیتے کہ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ اس سے اہل بصرہ اور متعجب ہوتے چنانچہ امام زفر کا اہل بصرہ سے یہی رویہ رہا یہاں تک کہ بغض و عداوت چھوڑ کر وہ امام صاحب کے گہرے دوست بن گئے پہلے برا بھلا کہتے تھے اور اب ان کی تعریف میں رطب اللسان رہنے لگے۔

(الانتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة، صفحہ 174، دارالکتب العلمیہ)

شیخ زاہد کوثری کی کتاب المسحات النظر میں بطریق اسماعیل بن حماد نقل ہے:

امام ابو حنیفہ کے دس شاگرد جن میں ابو یوسف، امام زفر، اسد بن عمر، عافیہ، داؤد طائی، قاسم بن معن، علی بن مسہر، یحییٰ بن زکریا، حبان اور مندل شامل ہیں، ان میں سے امام ابو یوسف اور امام زفر کی طرح کا کوئی نہیں، ان کا شمار اکابر اصحاب ابی حنیفہ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں ”بسطریق اسماعیل بن حماد: كأصحاب أبي حنيفة عشرة: أبو يوسف، وزفر، وأسد بن عمرو البجلي، وعافية الاودي، وداؤد الطائي والقاسم بن معن المسعودي وعلي بن مسهر ويحيى بن زكريا بن ابي زاء حبة، وحبان ومندل ابنا علي العنزي۔ ولم يكن فيهم مثل أبي يوسف وزفر وهؤلاء أكابر اصحاب ابي حنيفة الذين دونوا الفقه معه۔“ عبارت کا ترجمہ وہی ہے جو اوپر لکھا گیا ہے۔

(لمحات النظر، صفحہ 11، المكتبة الازهرية، للتراث، بيروت)

امام زفر (رحمة الله تعالى عليه) بحیثیت ماهر نفسیات

بصرہ کی فضا اس وقت امام اعظم کے تلامذہ کے لیے نہایت غیر موزوں تھی گو وہاں امام صاحب کے متعدد ممتاز تلامذہ موجود تھے مگر کسی نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری کرنے کی ہمت نہیں کی۔ یوسف بن خالد بصری، امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد تھے، جب وہ امام اعظم کی خدمت سے وطن واپس ہونے لگے تو امام صاحب نے اُن سے کہا کہ بصرہ میں بہت سے صاحب علم و فضل ہیں وہاں جا کر کسی پلر سے لگ نہ بیٹھنا (اس وقت دینی علوم کی درسگاہیں مسجدیں ہوتی تھیں، یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ مسجد کے کسی پلر سے لگ کر مسند درس نہ بچھا دینا) یعنی درس و تدریس کا سلسلہ نہ جاری کر دینا اور یہ کہنے لگنا کہ ابو حنیفہ نے یہ اور یہ کہا ہے ورنہ جلد ہی مسند درس اٹھا دینی پڑے گی مگر انہوں نے امام اعظم کی ہدایت پر عمل نہ کیا اور بصرہ پہنچتے ہی مسند درس قائم کر دی، نتیجہ وہی ہوا جس کی امام صاحب نے پیش گوئی

کی تھی، یعنی ان کو جلد ہی مسند درس اٹھا دینی پڑی، اس وقت بصرہ میں عثمان بن مسلم امام بصرہ تھے، یہ ان کی مجلس علم میں جانے لگے مگر ان سے وہاں بھی خاموش نہیں رہا گیا اور انہوں نے امام اعظم کے اقوال ان کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیئے جس کے نتیجہ میں شیخ عثمان کے تلامذہ نے ان کو زد و کوب تک کیا۔

(لمحات النظر، دار احیاء لثراث العربی، بیروت، صفحہ 19)

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بصرہ میں امام اعظم اور ان کے تلامذہ سے متعلق لوگوں میں کتنی نفرت پھیلی ہوئی تھی انہی حالات میں امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) بصرہ جاتے ہیں، امام اعظم (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) لوگوں کی نفسیات اور ان کی سیاست اور رجحان سے خوب واقف تھے اسی لئے انہوں نے یوسف بن خالد کو اہل بصرہ کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا مگر وہ اس کو نہ سمجھ سکے، جس کے نتائج ان کے حق میں اچھے نہیں ہوئے، امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) خود بھی ذہین اور موقع شناس تھے اور پھر امام اعظم (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی اس ہدایت سے بھی واقف تھے، اس لئے جب وہ بصرہ گئے تو انہوں نے پہلے حلقہ درس نہیں قائم کیا بلکہ شیخ عثمان بن مسلم کی مجلس درس میں شرکت کرنے لگے، کچھ روز وہ چپ چاپ درس میں شریک ہو کر سنتے رہے، اس کے بعد انہوں نے ان کے اصول و فروع پر نظر ڈالی تو بہت سے مسائل کے سلسلہ میں اصل و فرع اور ماخوذ میں تضاد نظر آیا، امام زفر ان مسائل کا تذکرہ ان کے تلامذہ سے کرتے اور پھر بہ دلائل اُن کی غلطی واضح کرتے وہ تلامذہ اس کا ذکر شیخ سے کرتے اور اُن سے اپنی رائے سے رجوع کرنے کیلئے اصرار کرتے، تھوڑے دن کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) سے استفادہ کرنے والوں کا ہجوم ہوا اور ان کو ایک الگ حلقہ درس قائم کرنا پڑا، ابواسد کہتے ہیں کہ ان کے درس میں اتنا

ہجوم ہوا کہ وہاں کے اکثر حلقہائے درس ٹوٹ گئے۔

اپنے استاد (رحمة الله تعالى عليه) پر اعتماد کی جھلک

اصول الدین عند الامام ابی حنیفہ میں ہے ”ویقول زفر بن الہذیل: لا تلتفتوا الی کلام المخالفین؛ فإن أبا حنیفة وأصحابنا لم یقولوا فی مسألة إلا من الكتاب والسنة والأقوال الصحیحة، ثم قاسوا بعد علیہ“ ترجمہ: زفر بن ہذیل کا فرمان ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مخالفین کی طرف توجہ نہ کرو کیونکہ ابو حنیفہ اور ہمارے اصحاب ہر ایک مسئلہ قرآن و حدیث اور اقوال صحیحہ سے بیان کرتے ہیں، ان میں کچھ نہ ملے تو پھر قرآن و حدیث کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق قیاس کرتے ہیں۔

(اصول الدین عند الامام، الباب الاول، جلد 1، صفحہ 151، دار الصمیعی، السعودیہ)

امام زفر کا اپنے استاد کی تعظیم و توقیر کرنا

محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الآملی، ابو جعفر الطبری متوفی 310: لکھتے ہیں ”حدثنی عمرو بن سلیمان العطار قال کنت بالكوفة أجالس أبا حنیفة فتزوج زفر فحضره أبو حنیفة فقال له تکلم فخطب فقال فی خطبته هذا زفر بن الہذیل وهو إمام من أئمة المسلمین وعلم من أعلامهم فی حسبہ وشرفہ وعلمہ فقال بعض قومه ما یسرنا أن غیر أبی حنیفة یخطب حین ذکر حصالة ومدحه وکره ذلك بعض قومه وقالوا له حضر بنو عمک وأشراف قومک وتسال أبا حنیفة یخطب فقال لو حضر أبی قدمت أبا حنیفة علیہ“ ترجمہ: عمرو بن سلیمان کہتے ہیں کہ مجھے کوفہ میں ابو حنیفہ (رحمة الله تعالى عليه) کی صحبت حاصل ہوئی ہے، امام زفر (رحمة الله تعالى عليه) کی شادی تھی کہ امام ابو حنیفہ تشریف لائے،

امام زفر نے ان سے عرض کی: کچھ ارشاد ہو: پس امام اعظم نے خطبہ ارشاد فرمایا: اور اپنے خطبے میں فرمایا: یہ زفر ہیں، اماموں کے امام ہیں اور حسب و شرف و علمی لحاظ سے ان اماموں کی نشانیوں میں سے ہیں۔۔۔۔۔ جب کہ کچھ افراد کو یہ بات اچھی نہ لگی اور امام زفر سے کہنے لگے کہ تمہارے چچا زاد بھائی اور تمہارے خاندان کے معزز لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود تم نے ابو حنیفہ سے خطبہ کے لئے کیوں کہا، امام زفر نے فرمایا: اگر یہاں میرا باپ بھی موجود ہوتا تو میں امام ابو حنیفہ کو اس پر بھی ترجیح دیتا۔

(المنتخب، جلد 01، صفحہ 139، بیروت، لبنان)

اخبار ابی حنیفہ میں ہے ”قَالَ ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ ابِي عِمْرَانَ يَحْدُثُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ حَمَّادِ اللُّؤْلُؤِيِّ وَهُوَ ابْنُ اخِي الْحَسَنِ بْنِ زِيَادِ اللُّؤْلُؤِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعَمِّي الْحَسَنِ بْنِ زِيَادِ اللُّؤْلُؤِيِّ رَأَيْتَ زَفَرَ وَابَا يُوسُفَ عِنْدَ ابِي حَنِيفَةَ فَكَيْفَ رَأَيْتَهُمَا قَالَ رَأَيْتُهُمَا كَعَصْفُورَيْنِ قَدْ انْقَضَ عَلَيْهِمَا بَازِي“ ترجمہ: ولید بن حماد اللؤلؤی کہتے ہیں میں نے اپنے چچا حسن بن زیاد لؤلؤی سے کہا: آپ نے زفر اور ابو یوسف کا امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضری کا انداز دیکھا ہے؟ آپ نے ان دونوں کو کیسا پایا؟ حسن بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی بارگاہ میں ان دونوں کو ان چڑیوں کی طرح پایا جن کے اوپر باز آ کر گرا ہوں۔ (یعنی بے حس و حرکت)

(اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ، جلد 1، صفحہ 112، عالم الکتب، بیروت)

امام کردری صاحب فتاویٰ بزازیہ نے مناقب لامام اعظم میں لکھا کہ ”امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) امام ابو حنیفہ کا غایت درجہ احترام کرتے تھے، فرماتے تھے کہ امام اعظم کی زندگی میں، میں ان سے اختلاف کرتا تھا مگر اب ہمت نہیں پڑتی۔ جب ان کی

شادی ہوئی تو امام اعظم (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کو انہوں نے مدعو کیا اور خطبہ کی خواہش ظاہر کی۔ امام اعظم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ اپنے علم و فضل اور شرف کے لحاظ سے امام المسلمین ہیں، بعض لوگوں کو یہ اعزاز برا معلوم ہوا اور ان سے کہا کہ تمہارے خاندان اور قوم کے ممتاز لوگ موجود ہیں، ان سے خطبہ کی خواہش نہیں کی، امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے فرمایا کہ اگر میرے والد بھی موجود ہوتے تو میں ان پر بھی امام صاحب کو ترجیح دیتا۔

(مناقب کردری، جلد 2، صفحہ 182)

یہ کتاب اس وقت میرے پاس موجود نہیں، کہیں سے نقل کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

امام اعظم کی مجلس میں امام زفر کی نشست

اخبار ابی حنیفہ میں ہے ”أَخْبَرَنَا عُمَرُ قَالَ ثَنَا مَكْرَمٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ ثَنَا الْبَرْتِيُّ الْقَاضِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَعِيمٍ قَالَ كَانَ زُفَرٌ يَجْلِسُ بِحِذَاءِ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ يَجْلِسُ إِلَى جَانِبِهِ“ ترجمہ: قاضی برقی کہتے ہیں کہ میں نے ابو نعیم سے سنا کہ زفر بن ہذیل امام اعظم کے مقابل یعنی سامنے بیٹھتے اور ابو یوسف ایک سائیڈ میں ہو کر بیٹھتے۔

(اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ، جلد 1، صفحہ 111، عالم الکتب، بیروت)

لمحات النظر میں ہے ”عن بشر بن يحيى عن خالد بن صبيح

قال: رحلت الى ابي حنيفة فنعى الى في الطريق فدخلت مسجد الكوفة فاذا الناس كلهم على زفر بن الهذيل وعند ابي يوسف رجلان أو ثلاثة أهـ لعل هذا الامر كان في مبدأ الأمر ثم علا شأن ابي يوسف بكثرة الاخذين عنه بحيث لا يلحقه لاحق ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء“ یعنی خالد بن صبیح کہتے ہیں: میں مسجد کوفہ میں داخل ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ تمام کے تمام لوگ امام زفر کے ارد گرد جمع ہیں اور امام

یوسف کے پاس صرف دو تین ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید یہ امام اعظم کی وفات کے ابتدائی دور کا معاملہ ہے کیونکہ بعد میں تو امام ابو یوسف کی قدور منزلت بڑے عروج کو پہنچ گئی تھی اور ان سے سیکھنے والوں کی تعداد جس قدر ہوئی اس کے برابر کسی کی نہ ہوئی۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ (لمحات النظر، صفحہ 10، المكتبة الازهرية، للتراث، بیروت)

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا فقہ حنفی سے لگاؤ

حسین بن علی بن محمد بن جعفر، ابو عبد اللہ القسیمی حنفی لکھتے ہیں ”وحدثنا عبد

اللہ بن محمد البزاز قال ثنا مكرم قال ثنا احمد قال ثنا الحسين بن حماد قال كان اصحاب ابي حنيفة الذين كانوا يلزمون الحلقة عشرة وكان الحفاظ للفقہ كما يحفظ القرآن اربعة وهم زفر بن الهذيل ويعقوب بن ابراهيم واسد بن عمرو وعلي بن مسهر“ ترجمہ: اصحاب ابی حنفیہ میں دس افراد ایسے تھے جو پابندی کے ساتھ فقہی مذاکرہ کے حلقہ میں شرکت کرتے تھے اور چار افراد ایسے تھے کہ وہ فقہ کو ایسے یاد کرتے جیسے قرآن کو یاد کیا جاتا ہے، وہ چار یہ ہیں۔

(1) زفر بن ہذیل

(2) یعقوب بن ابراہیم

(3) اسد بن عمرو

(4) علی بن مسہر

(الخبزارابی حنیفة واصحابہ، جلد 1، صفحہ 74، عالم الکتب، بیروت)

فصل رابع: امام زفر کا علمی مقام

امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کا فقہ میں مقام و مرتبہ

امام زفر کا فقہ میں کیا مقام و مرتبہ ہے اور بطور خاص فقہائے احناف میں ان کا درجہ و مرتبہ کیا ہے، اس بارے میں ضرورت ہے کہ ذرا تفصیلی طور پر کلام کیا جائے۔ علامہ ابن عابدین شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے امام زفر کو فقہاء یا مجتہدین کے سات درجے کرنے کے بعد دوسرے درجہ میں رکھا ہے یعنی مجتہد فی المذہب۔ جن کا کام یہ ہے کہ جس مسئلہ میں امام اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے کوئی صراحت نہ ہو، اس میں اجتہاد کریں لیکن اصول میں وہ امام ابوحنیفہ کی مخالفت نہیں کرتے۔ علامہ ابن عابدین شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی اس تقسیم کی بعض حضرات نے مخالفت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صاحبین (امام ابو یوسف اور امام محمد) اور امام زفر کا مقام و مرتبہ بھی مجتہد مطلق کا ہے یعنی اصول اور فروع دونوں میں وہ مجتہد ہیں البتہ انہوں نے چونکہ ہمیشہ اپنی نسبت امام ابوحنیفہ اور ان کے مسلک کی نشرو اشاعت کو ترجیح دی، اس لحاظ سے ان کو امام ابوحنیفہ یا فقہائے احناف کی جانب منسوب کیا جاتا ہے ورنہ وہ بھی ویسے ہی مجتہد ہیں جیسے امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) وغیرہ۔ شیخ ابوزہرہ نے امام ابوحنیفہ پر لکھی گئی کتاب میں اس پر بحث کی ہے اور آخر میں یہی رائے قائم کی ہے کہ وہ مجتہد مطلق تھے۔ یعنی اجتہاد مطلق کی تمام شرائط اور اوصاف ان میں بدرجہ کمال موجود تھے لیکن انہوں نے ہمیشہ امام ابوحنیفہ کے اقوال کی نشرو اشاعت اور ان کے مسلک کو عام کرنے کی کوشش کی۔ حیات امام ابوحنیفہ، تالیف شیخ ابوزہرہ، ترجمہ غلام احمد حریری صفحہ (725) دوسری طرف شیخ زاہد الکوثری نے بعض مصنفین کی جانب سے امام زفر کو مجتہد مطلق کے بجائے مجتہد فی المذہب میں رکھنے پر سخت اعتراض کیا ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں ”یَعْدُ اَنْ عَلِمَ اَنْ زَفَرًا مَعَ اَبِي يَوْسُفَ كَفَرَسِي رَهَانًا فِي الْاِجْتِهَادِ لَا يَبْقَى وَجْهٌ لِلْاِلْتِقَاءِ اِلَى قَوْلِ مَنْ ظَنَّ اَنْ

زفر فی عداد المجتہدین فی المذہب کما اوضحنا ذلک فی غیر موضع
 ومع ذلک کان کلہ لزفر مخالفت فی الاصول والفروع مدونة فی
 کتب القوم فلا یكون تادب زفر تجاه استاذہ ومحافظتہ علی الانتساب الیہ
 وعرفانہ لجمیلہ علیہ مما ینزل مقامہ فی الاجتہاد المطلق علی حدة ذہنہ فی
 قیاس المسائل، وقوة ضبطہ للدلائل واتقانہ للحديث کما قر بذلک امثال ابن
 حبان وورعہ البالغ معروف عند الجميع رضی اللہ عنہ وعن اساتذتہ واصحابہ
 اجمعین " یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ زفر اور ابو یوسف (رحمہم اللہ) اجتہاد میں اونچے مقام
 کے حامل ہیں تو اب کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ ہم ان لوگوں کے قول کی طرف توجہ کریں
 جنہوں نے امام زفر کو مجتہدین فی المذہب میں شمار کیا ہے جیسا کہ ہم نے دوسرے مقامات
 پر بھی واضح کیا ہے کیونکہ امام زفر کے اصول اور فروع دونوں میں امام ابو حنیفہ سے
 اختلافات ہیں جو فقہاء احناف کی کتابوں میں مذکور ہیں، یہ صحیح ہے کہ امام زفر امام ابو حنیفہ
 رضی اللہ عنہ کا انتہائی ادب کرتے تھے، اور ان کی جانب نسبت کی حفاظت کرتے تھے اور امام
 ابو حنیفہ کے اپنے اوپر حسن سلوک کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے لیکن اس کی وجہ سے امام زفر کے درجہ کو
 اجتہاد مطلق سے کم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ مسائل کے قیاس میں ان کی بلند پروازی، دلائل کا
 انضباط اور فن حدیث میں اتقان جس کا ابن حبان نے اعتراف کیا ہے، اور انتہائی پرہیز
 گاری وغیرہ ایسے امور ہیں جسے سب جانتے ہیں۔

(لمحات النظر فی سیرۃ الامام زفر، صفحہ 20-21)

[واجب الملاحظہ] شیخ زاہد کوثری کی امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کو مجتہد فی

المذہب کے درجے میں شمار کرنے والوں پر تنقید و اعتراض بے بنیاد ہے جسے غلو یا اسے ان

کے اپنے ذاتی موقف کے سوا کچھ نہیں کہا جاسکتا لہذا صحیح و درست اور رائج یہی ہے کہ امام زفر مجتہد فی المذہب تھے اور محققین کی یہی تحقیق ہے جیسا کہ علامہ شامی لکھتے ہیں ”الثانیة: طبقة المجتہدین فی المذہب: کابی یوسف و محمد و سائر اصحاب أبی حنیفة القادرین علی استخراج الاحکام عن الادلة المذكورة علی حسب القواعد التي قررہا استاذہم فانہم وان خالفوه فی بعض الاحکام الفروع لکنہم یقلدونه فی قواعد الاسلام“ ترجمہ: دوسرا درجہ مجتہدین فی المذہب کا ہے جیسا کہ امام ابو یوسف، امام محمد اور ان کے دیگر اصحاب جن کے اندر اپنے استاد کے بیان کردہ قواعد و ضوابط و اصول کے مطابق دلائل کی روشنی میں نو پیدا مسائل کا حل تلاش کرنے کی صلاحیت موجود تھی اگرچہ ان اصحاب نے بعض فروع میں امام اعظم سے اختلاف کیا ہے مگر وہ قواعد اسلام میں امام صاحب ہی کی پیروی کرتے تھے۔

(رسم المفتی، صفحہ 21، مکتبہ دارالعلوم، کراچی، پاکستان)

امام زفر امام ابو حنیفہ کے جانشین تھے

آپ کے علمی مقام کی بلندی کے کیا کہنے، کیا یہ کوئی معمولی مقام و مرتبہ ہے کہ بڑے بڑے امام آپ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کو امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا جانشین اور امام ابو حنیفہ کے بعد آپ سے علم دین سیکھنے کو باعث شرف سمجھتے ہیں جیسا کہ امام وکیع (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) سے امام زفر سے تحصیل علم کے بارے میں یہ الفاظ منقول ہیں ”وَ کَانَ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ لَنَا خَلْفًا عَنِ الْإِمَامِ وَلَکِنْ لَا یَذْهَبُ عَنِّ حَسْرَةُ الْإِمَامِ“ ترجمہ: خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو ہمارے لئے امام کا جانشین بنایا لیکن مجھ سے امام ابو حنیفہ کے تعلق سے حسرت نہیں جاتی ہے۔ (یعنی ان کے انتقال کا دکھ اور صدمہ)

اپنی جگہ باقی ہے۔) (الجواهر المضية، جلد 2، صفحہ 535، میر محمد، کتب خانہ، کراچی)

یہی وجہ ہے کہ جب امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا تو لوگوں نے امام زفر (رحمۃ اللہ علیہ) کی علمیت سے متاثر ہو کر آپ کی طرف رخ کر لیا اور یہ صورتحال اس حد کو پہنچی کہ امام زفر لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ اخبار ابی حنیفہ میں ہے ”أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّاهِدُ قَالَ ثَنَا مَكْرَمٌ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا مَلِیحُ بْنُ وَكَيْعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَاتِ أَبُو حَنِيفَةَ أَقْبَلَ النَّاسُ عَلَى زَفَرٍ“ ترجمہ: جب امام ابو حنیفہ فوت ہوئے تو لوگوں نے امام زفر کا رخ کر لیا۔

(اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ، جلد 1، صفحہ 111، عالم الکتب، بیروت)

اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے معاملات میں امام زفر کو حجت سمجھنے لگے ”وَعَنْ أَبِي مُطِيعٍ زَفَرٌ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ فِيمَا بَيْنَهُمْ يَعْمَلُونَ“ ترجمہ: ابو مطیع سے ہے کہ لوگوں کے آپس کے معاملات میں ان پر امام زفر اللہ کی حجت ہیں۔

(الجواهر المضية فی طبقات الحنفیہ، جلد 2، صفحہ 535، میر محمد، کتب خانہ، کراچی)

اور جب لوگوں نے امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور ان سے اکتساب فیض کیا اور لوگوں نے امام زفر کو قریب سے ہو کر دیکھا تو آپ کے علم کثیر کی وجہ سے لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ امام وکیع (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) جیسے کہنے لگے کہ امام زفر کی صحبت سے زیادہ مجھے کسی کی صحبت نے فائدہ نہ دیا جیسا کہ الجواهر میں ہے ”وَعَنْ وَكَيْعٍ وَهُوَ شَيْخٌ مَا نَفَعَنِي مَجَالَسُهُ أَحَدٌ مِثْلَ مَا نَفَعَنِي مَجَالَسَةُ زَفَرٍ“ ترجمہ: امام وکیع سے ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جس قدر امام زفر کی صحبت سے فائدہ حاصل ہوا کسی اور سے نہ ہوا۔

(الجواهر المضية فی طبقات الحنفیہ، جلد 2، صفحہ 535، میر محمد، کتب خانہ، کراچی)

لمحات النظر میں ہے ”قیل لو کعب بن الجراح تختلف الی زفر؟ فقال
غررتموناعن ابی حنیفة حتی فات فتریدون ان تغروناعن زفر“ ترجمہ: کعب بن
جراح سے کہا گیا کہ آپ امام زفر کے پاس بہت آتے جاتے ہیں، تو آپ نے جوابا فرمایا
کہ پہلے تم لوگ مجھے امام اعظم کے بارے میں بہکاتے رہے اب امام زفر کے بارے میں
بہکا رہے ہو۔ (لمحات النظر، صفحہ 8، المكتبة الازهریة للتراث، بیروت)

مجلس تحقیقات شرعیہ

سیدی امام احمد رضا خان (علیہ رحمۃ الرحمن) کے فتاویٰ رضویہ میں لکھا ہے کہ
امام صاحب (ابو حنیفہ) کی مجلس میں سب سے زیادہ بحث ہوتی اور بحث کرنے والے چار
افراد ہوتے۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد 01، صفحہ 97، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اور وہ چار افراد کون سے تھے؟ ان کی تصریح متعدد کتب میں موجود ہے چنانچہ
فتاویٰ رضویہ ہی میں ہے ”عن عاصم بن یوسف لم یر مجلس انبل من مجلس
الامام وکان انبل اصحابہ اربعة زفر و ابو یوسف و عافیة و اسد بن عمرو و قالوا
لا یحل لاحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من ابن قلنا و لا ان یروی عنا شیئا لم
یسمعه منا و فیہا عن ابن جبلة سمعت محمدا یقول لا یحل لاحد ان یروی عن
کتبتنا الا منا سمع او یعلم مثل علمنا“ ترجمہ: عاصم بن یوسف سے روایت ہے کہ امام
اعظم کی مجلس سے زیادہ معزز کوئی مجلس دیکھنے میں نہ آئی، اور ان کے اصحاب میں زیادہ معزز
و بزرگ چار حضرات تھے۔

(1) امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

(2) امام ابو یوسف (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

(3) امام عافیہ (رحمة الله تعالى عليه)

(4) امام اسد بن عمرو (رحمة الله تعالى عليه)

ان حضرات نے فرمایا: کسی کے لئے ہمارے قول پر فتویٰ دینا اُس وقت تک روا (جائز) نہیں جب تک اسے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے کہاں سے کہا ہے، نہ ہی اس کے لئے یہ روا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی بات روایت کرے جو ہم سے سنی نہ ہو۔ اسی کتاب میں ابن جبہ کا یہ بیان مروی ہے کہ میں نے امام محمد کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی کے لئے ہماری کتابوں سے روایت کرنا روا نہیں مگر وہ جو خود اس نے سنا ہو یا وہ جو ہماری طرح علم رکھتا ہو۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 01، صفحہ 97، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

امام زفر (رحمة الله تعالى عليه) ایک مفتی کی حیثیت سے

اعلام میں ہے ”زفر بن الہذیل بن قیس العنبری، من تمیم، أبو الہذیل: فقیہ کبیر، من أصحاب الإمام أبي حنيفة“ ترجمہ: زفر بن ہذیل بن قیس عنبری تمیمی اصحاب ابی حنیفہ میں سے بہت بڑے فقیہ تھے۔

(الاعلام لزر کلی، حرف الزاء، جلد 3، صفحہ 45، دار العلم للملایین)

الطبقات السنیة میں ہے ”وعنه: سمعت أبي يقول: زفر كان أفتی أصحاب أبي حنيفة، وأجمعهم لخصال الخير“ ترجمہ: میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ زفر بن ہذیل امام ابو حنیفہ کے تمام شاگردوں میں سب سے بڑا فقیہ اور سب سے زیادہ خصال خیر کا حامل ہے۔

(الطبقات السنیة فی تراجم الحنفیة، حرف الزاء، صفحہ 283)

امام زفر (رحمة الله تعالى عليه) کے قول پر فتویٰ

امام زفر نے باوجود اس کے کہ مختصر عمر پائی اور محض اڑتالیس سال کی عمر میں واصل

بحق ہو گئے۔ اس لئے ان سے فرمودہ نقولات و مسائل کی وہ کثرت نہیں ہے جو صاحبین کی ہے اس کے باوجود فقہ حنفی میں 17 سے زائد مسائل ایسے ہیں جن میں فتویٰ امام زفر کے قول پر ہے جو کہ کتب فقہ و فتاویٰ میں متفرق طور پر مذکور تھے، جنہیں سب سے پہلے سید احمد الحموی "الاشباہ والنظائر" کے شارح نے ایک جگہ ایک رسالہ میں جمع کیا اور اس کا نام رکھا عقود الدرر فیما یفتی بہ فی المذہب من اقوال زفر اس رسالہ کی ایک شرح شیخ عبدالغنی النابلسی نے لکھی ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن عابدین شامی نے ان کی تلخیص و تحقیق کی۔ شیخ زاہد الکوثری نے بھی لمحات النظر میں اسے بیان کیا ہے "ولزفر نحو سبع عشرة مسألة یفتی بہا فی المذہب عند نقاد المذہب الف فیہا السید الحموی شارح الاشباہ والنظائر رسالة سماها "عقود الدرر فیما یفتی بہ فی المذہب من اقوال زفر" وشرحہا الشیخ عبدالغنی النابلسی ومحصھا ابن عابدین وانقرادات زفر فی المسائل مدونة فی منظومة النسخ فی الخلاف وشرحوها بیسط، وقد اشار ابو الزید الدبوسی فی تاسیس النظر فی فصل خاص الی مخالقات زفر فی الاصول والفروع کما اشیر الی آرائه الخاص فی الاصول فی کتب الاصول المبسوطة کشامل الاتقانی وبحر الزرکشی وشرح اصول البزدوی خاصة۔"

(لمحات النظر، صفحہ 21، دار احیاء التراث، بیروت)

آپ اپنے علاقے کے سب سے بڑے مفتی تھے

اخبار ابی حنیفہ میں ہے "اخبرنا المرزبان قال ثنا الحسن بن محمد المخرمی قال ثنا محمد بن عثمان بن ابی شیبہ قال سألت ابی وعمی ابا بکر عن زفر بن الہذیل فقال کان زفر من اهل اقلہ قال ابی وکان ابو نعیم

یرفع زفر و یقول کَانَ نِیْلًا فَقِیْهَا“ ترجمہ: عثمان بن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ اور چچا ابو بکر سے زفر بن ہذیل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ زفر اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ میرے والد نے مزید کہا کہ ابو نعیم امام زفر کی بڑی شان بیان کرتے یہاں تک کہتے کہ زفر عمدہ رائے قائم کرنے والے فقیہ ہیں۔

(انخبار ابی حنیفہ و اصحابہ، جلد 1، صفحہ 109، عالم الکتاب، بیروت)

امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کے قول پر فتوے کا درجہ

اس سے متعلق فتاویٰ رضویہ میں ہے کہ ”الفتویٰ علی الاطلاق علی قول

ابی حنیفہ ثم ابی یوسف ثم محمد ثم زفر والحسن ولفظ النهر ثم الحسن“ ترجمہ: فتویٰ مطلقاً قول امام ابو حنیفہ پر ہوگا، پھر امام ابو یوسف، پھر امام محمد پھر امام زفر، اور امام حسن کے قول پر اور نہر الفائق کے الفاظ کے مطابق پھر امام حسن پر (یعنی صاحب نہر نے امام حسن کے قول پر فتوے کا درجہ امام زفر کے بعد بیان کیا ہے۔)

(مانحود از فتاویٰ رضویہ، جلد 1 (الف)، صفحہ 77-176، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

البحر الرائق میں ہے ”أَنَّ الْمُفْتَى يُفْتَى بِقَوْلِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ ثُمَّ بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ثُمَّ بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ بِقَوْلِ زُفَرٍ وَالْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ“ ترجمہ: مفتی پر لازم ہے کہ وہ مطلقاً امام اعظم کے قول پر فتویٰ دے اس کے بعد امام یوسف پھر امام محمد پھر امام زفر و حسن بن زیاد کے قول پر۔

(البحر الرائق، کتاب الوقف، جلد 5، صفحہ 222، دارالکتاب الاسلامی)

20 مسائل میں امام زفر کے قول پر فتویٰ دینے کی وجہ

ضرورت و حاجت کی بناء پر امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کے قول پر فتویٰ

دیا جاتا ہے جیسا کہ فقہ حنفی میں قصصا علی الغائب جائز نہیں جبکہ بیوی جس کا شوہر غائب

ہو جائے اس کی ضروریات کو ملحوظ رکھتے ہوئے قضا علی الغائب (یعنی جو موجود نہیں اس کے خلاف فیصلہ دینے) کی بوجہ ضرورت اجازت دی جو کہ امام زفر کا قول ہے جیسا کہ درر الحکام شرح غرر الاحکام 417/1 میں ہے ”(وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِ زُفَرٍ (يُعْمَلُ) لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا“ ترجمہ: یعنی ضرورت و حرج کی وجہ سے امام زفر کے قول پر عمل کیا جاتا ہے۔

جبکہ بعض مسائل پر امام زفر کے قول پر بوجہ عرف فتویٰ دیا گیا ہے کہ جیسا کہ محقق شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) رد المحتار 526/3 پر لکھتے ہیں ”وَقَدْ عَمِلَ الْمُتَأَخِّرُونَ بِقَوْلِ زُفَرٍ فِي مَسَائِلَ مَعْرُوفَةٍ لِمُوَافَقَتِهَا الدَّلِيلَ وَالْعُرْفَ“ ترجمہ: متاخرین نے چند ایک مسائل کے موافق دلیل و عرف ہونے کی وجہ سے امام زفر کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ نیز بعض مسائل پر فتویٰ تغیر زمان و مکان کی وجہ سے دیا گیا جیسے پہلے عمومی طور پر لوگوں کے گھر جیسے باہر سے ہوتے ویسے ہی اندر سے ہوتے لیکن زمانہ بدلا، لوگوں کے گھر بنانے کا انداز بدلا، اندر اور باہر کی بناوٹ میں تغیر و تبدل واقع ہوا تو امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے فرمایا: جب تک اندر سے مکان دیکھ نہ لیا جائے، خیار رویت ساقط نہ ہوگا جبکہ ظاہر الروایہ میں یہ تھا کہ باہر سے دیکھنے سے خیار رویت ختم ہو جائے گا جیسا کہ محقق شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) رد المحتار 262/6 پر لکھتے ہیں ”وَإِفْتَاؤُهُمْ هُنَاكَ بِقَوْلِ زُفَرٍ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَا دَاخِلِ الْبُيُوتِ لِتَفَاوُتِهَا“ ترجمہ: متاخرین نے اس مسئلہ میں امام زفر کے قول پر کہ اندر سے مکان دیکھنا خیار رویت کے ساقط ہونے کے لئے ضروری ہے مکانوں میں تفاوت ہونے کی بناء پر فتویٰ دیا۔

امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کے فتویٰ دینے کا انداز

امام زفر فقہ کے عین مطابق فتویٰ دیتے تھے سب سے مسائل فی علم الخلاف میں ہے "رَوَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: شَكَّكَتُ فِي طَلَاقِ امْرَأَتِي فَسَأَلْتُ شَرِيكَهَا فَقَالَ: طَلَقَهَا وَأَشْهَدُ عَلَى رَجْعَتِهَا: ثُمَّ سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ فَقَالَ: "أَذْهَبُ فَرَاغِعَهَا فَإِنْ كُنْتُ قَدْ طَلَقْتُهَا فَقَدْ رَاجَعْتُهَا"، ثُمَّ سَأَلْتُ زُفَرَ بْنَ الْهَدَيْلِ فَقَالَ لِي: "هِيَ امْرَأَتُكَ حَتَّى تَبْقَى طَلَاقُهَا: فَأَتَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ: أَمَّا سُفْيَانُ فَنَافَتَاكَ بِالنُّورِ وَأَمَّا زُفَرُ فَافْتَاكَ بِعَيْنِ الْفِقْهِ" ترجمہ: اسماعیل بن حماد سے مروی ہے: کہتے ہیں کہ مجھے اپنی عورت کی طلاق میں شک ہوا تو میں نے شریک سے اس کے بارے رہنمائی لی، انہوں نے فرمایا: اپنی بیوی کو طلاق دو اور پھر رجوع کر لو اور رجوع پر گواہ بناؤ، میں نے سفیان ثوری (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) سے پوچھا تو انہوں نے یہ رہنمائی فرمائی کہ رجوع کر لو کیونکہ اگر تم نے طلاق دی ہوئی ہوگی تو رجوع سے دوبارہ وہ تمہارے نکاح میں باقی رہے گی پھر میں نے زفر بن ہذیل (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) سے پوچھا: انہوں نے مجھے فتویٰ دیا کہ شک کی بنیاد پر طلاق نہیں ہوتی جب تک وقوع طلاق کا یقین نہ ہو جائے لہذا وہ بدستور تمہاری بیوی ہے۔ کہتے ہیں پھر میں امام ابو حنیفہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے ارشاد فرمایا (یعنی ہر ایک کے اقوال و فتاویٰ کی وجوہات بیان فرماتے ہوئے کہا): سفیان ثوری کا فتویٰ ورع یعنی اعلیٰ درجہ کے تقویٰ پر محمول ہے جبکہ زفر کا فتویٰ فقہ کے عین مطابق ہے۔

(سبع مسائل فی علم الخلاف، المسئلة الخامسة، جلد 1، صفحہ 80، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)

کوفہ کے سب سے بڑے عالم کا نام

الاشعاع میں ہے "زُفَرُ بْنُ الْهَدَيْلِ، كَتَبَ أَعْلَمَ أَهْلِ الْكُوفَةِ بِفِقْهِ أَبِي

حنيفة“ ترجمہ: زفر بن ہذیل فقہ حنفی کے اعتبار سے کوفہ کے سب سے بڑے عالم تھے۔

(الاشتقاق، قبائل بنی تمیم، جلد 1، صفحہ 214، دار العجل، بیروت، لبنان)

امام زفر اور داؤد طائی کا مکالمہ اور داؤد طائی کا رجوع

اخبار ابی حنیفہ میں ہے ”قَالَ هَذَا كِتَابُ جَدِّي إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادٍ فَقَرَأْتُ فِيهِ حَدِيثِي الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زُفَرُ بْنُ الْهَذِيلِ قَالَ ذَاكَ رَأَيْتُ دَاوُدَ يَوْمًا مَسْأَلَةً فَقُلْتُ فِيهَا فَقَالَ أَخْطَأْتُ فَبَيَّنْتُ لَهُ حَتَّى رَجَعَ فَاسْتَحْيَا ثُمَّ أُنْشِدَ قَوْلَ ابْنِ شَبْرَمَةَ:

كَادَتْ تَزُلُ بِهِ مِنْ شَاهِقِ قَدَمٍ... لَوْلَا تَدَارَكَهَا نُوحُ بْنُ دِرَاجٍ

ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا الْهَذِيلِ----- أَهْلَكُنِي حُبُّ الْمَبَاهَاةِ

ترجمہ: (احمد بن بھلول) کہتے ہیں کہ یہ کتاب میرے دادا اسماعیل بن حماد کی ہے میں نے اس میں یہ لکھا ہوا پڑھا کہ ”مجھ سے بیان کیا قاسم بن معن نے جن کا کہنا ہے مجھے خبر دی زفر بن ہذیل نے کہ ایک دن مجھ سے داؤد طائی نے ایک مسئلے کا ذکر کیا تو میں نے اس کا جواب دیا تو داؤد طائی نے فرمایا: آپ نے خطا کی۔ امام زفر فرماتے ہیں: جب میں نے اس کی مزید وضاحت کی تو انہوں نے رجوع کر لیا اور مجھ سے حیا کی پھر ابن شبرمہ کا یہ شعر کہا: قریب تھا کہ بلندی سے قدم پھسل جاتے اگر نوح بن دراج اس کا تدارک نہ کرتے۔ پھر کہنے لگے: اے ابو ہذیل! دوسروں سے آگے رہنے کی محبت نے مجھے ہلاک کر دیا۔

(اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ، اخبار داؤد طائی، جلد 1، صفحہ 119، عالم الکتب، بیروت)

امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) بحیثیت مناظر

لسان المیزان میں ہے ”قدم زفر بن الہذیل البصرة فکان یأتی حلقة

عثمان الیسی فیناظرهم ویسألهم ویسألهم عن فروعهم فإذا رأی شیئا

خارجوا فيه عن الأصل تكلم فيه مع عثمان حتى يتبين له خروجه من الأصل ثم يقول في هذا جواب أحسن من هذا فإذا استحسناه قال هذا قول أبي حنيفة فلم يلبث أن تحولت الحلقة اليه وبقي عثمان البتي وحده“ ترجمہ: زفر بن ہذیل (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) بصرہ تشریف لائے تو عثمان بتی کے حلقہ میں آکر ان سے مناظرہ کرنے لگے۔ انہی کے اصولوں کو بنیاد بنا کر ان سے ان کی فروعات کے متعلق سوال کرتے، پھر جب دیکھتے کہ یہ اپنے اصول سے نکل گئے ہیں یعنی جب وہ لوگ کوئی ایسی فرع بیان کرتے جو ان کے اصول پر پورا نہ اترتی تو اس میں عثمان کے ساتھ گفتگو کرتے حتیٰ کہ وہ بھی مان جاتے ہیں کہ ہماری اس تفریع نے ہمارے ہی اصول کو توڑ دیا ہے پھر اس مسئلے کے بارے میں ان کے جواب سے اچھا جواب دیتے جب دیکھتے انہیں میرا جواب اچھا لگا ہے تو کہتے یہ قول ابی حنیفہ ہے۔ پس وہاں پر علمی حلقہ میں شرکت کرنے والے سب کے سب انہی کے معتقد ہو گئے اور عثمان بتی اپنے موقف میں تنہا رہ گئے۔

(لسان المیزان، حرف الزای، من اسمہ زفر، جلد 2، صفحہ 478، بیروت، لبنان)

”قُلْتُ: كَانَ هَذَا الْإِمَامُ مُنْصِيفاً فِي الْبَحْثِ مُتَّبِعاً“ ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ امام زفر علمی بحث کرنے کے معاملے میں انتہائی منصف اور قابل اتباع ہیں۔

(سیر اعلام النبلاء، جلد 7، صفحہ 145، دار الحديث، القاهرة)

امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) قیاس کے میدان میں

امام زفر کی جو سب سے نمایاں خصوصیت کتب تاریخ و تراجم میں ذکر کی گئی وہ ان کی قیاس میں مہارت ہے یہاں تک کہ قیاس ان کی صفت ثانیہ بن گئی اور لوگ اسی وصف سے ان کو جاننے لگے۔ امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بھی اس فن میں ان کے معترف تھے چنانچہ ایک مرتبہ امام ابو یوسف اور امام زفر کے درمیان کسی مسئلہ میں بحث چھڑ گئی، تو زاوی

کہتا ہے کہ اگر بات حدیث کی ہوتی تو امام ابو یوسف غالب رہتے اور اگر بات قیاس و نظائر کی ہوتی ہے تو امام زفر غالب رہتے۔ لمحات النظر میں ہے ”حدث ابن ابی العوام عن الطحاوی عن ابی حازم عبد الحمید القاضی انه سمع بکر العمی يقول سمعت محمد بن سماعه يقول عن محمد بن الحسن قال: حضرت زفر و ابایوسف يتناظران فكان ابو یوسف یقهره بکثرة الروایة عن ابی حنیفه والاحبار فاذا صار الى المقایسة قهره زفر“ ترجمہ: ابن ابی عوام امام طحاوی سے روای یہ ابن حازم عبد الحمید قاضی سے جنہوں نے بکر سے سنا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن سماعہ سے سنا اور انہوں نے محمد بن حسن یعنی امام محمد سے روایت کیا، امام محمد فرماتے ہیں میں زفر اور ابو یوسف کے پاس موجود تھا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں کسی مسئلہ پر بحث کر رہے تھے، امام ابو حنیفہ سے بہت زیادہ روایت کرنے کی وجہ سے وہ امام زفر پر غالب آجاتے پھر جب قیاس کرنے کی باری آتی تو زفر ابو یوسف پر غالب آجاتے۔

(لمحات النظر، صفحہ 10، المكتبة الازهرية، للتراث، بیروت)

اس بات کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جب امام مزنی جو امام شافعی کے تلمیذ خاص تھے ان سے فقہائے احناف کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ہر ایک کی ممتاز خصوصیت کا ذکر کر دیا یہ واقعہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اور وہاں سے شیخ ابو زہرہ نے اپنی کتاب ”الامام ابو حنیفہ و آراؤہ الفقیہ“ میں ذکر کیا ہے ”مروی ہے کہ ایک شخص امام مزنی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اہل عراق کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے امام مزنی سے کہا ”ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام مزنی نے کہا: اہل عراق کے سردار، اس نے پھر پوچھا اور ابو یوسف کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟

امام مزنی بولے وہ سب سے زیادہ حدیث کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ بولا اچھا تو زفر کے متعلق فرمائیے امام مزنی بولے وہ قیاس میں سب سے تیز ہیں۔ خود امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بھی فرمایا کرتے تھے میرے شاگردوں میں قیاس کے معاملہ میں سب سے آگے زفر ہیں جیسا کہ الجواہر میں ہے ”زفر بن الہذیل بن قیس العنبری البصری تکرر ذکرہ فی الہدایۃ والخلاصۃ الإمام صاحب الإمام وکان یفضله ویقول هو اقیس اصحابی“

(الجواہر المصنیۃ، حرف الزاء، جلد 01، صفحہ 243، میر محمد، کتب خانہ، کراچی)

تاریخ التشریع الاسلامی میں ہے ”ومن أشهر تلامیذ أبی حنیفۃ كذلك: زفر بن الہذیل، الذی کان من أصحاب الحدیث ثم غلب علیہ الرأی ومہر فی القیاس“ ترجمہ: امام ابو حنیفہ کے سب سے زیادہ شہرت یافتہ تلامذہ میں سے امام زفر ہیں آپ محدث تھے پھر اس کے بعد آپ کی طبیعت پر فرقہ کا غلبہ ہوا اور قیاس کرنے میں انتہائی ماہر تھے۔

(تاریخ التشریع الاسلامی، جلد 1، صفحہ 341، مکتبہ وہبہ)

امام وکیع کا امام زفر کے قیاس کے بارے میں موقف

مشہور محدث امام وکیع کہتے ہیں ”کان زفر شدید الورع، حسن القیاس، قلیل الکتابۃ یحفظ ما یکتبہ“ ترجمہ: زفر زبردست ورع، حسن القیاس، قلیل پر مہارت رکھتے تھے، لکھنے کی عادت کم تھی مگر جو لکھتے تھے وہ یاد بھی رکھتے تھے۔

(لمحات النظر، المکتبۃ الازہریۃ، للتراث، بیروت)

امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) قیاس کب کرتے تھے؟

اس کے بارے کسی اور کا قول نقل کرنے کی بجائے امام زفر کا اپنا ہی قول بیان

کرا جاتا ہے ”خارجہ خود امام زفر فرمایا کرتے کہ ہم قیاس اسی وقت کرتے ہیں کہ جب

ہمارے سامنے قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ہوتی جیسا کہ امام ابن مبارک سے ہے ”وَعَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ سَمِعْتُ زُفَرَ يَقُولُ نَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِالرَّأْيِ مَا دَامَ أَثَرُ وَإِذَا جَاءَ الْأَثَرُ تَرَكْنَا الرَّأْيَ“ ترجمہ: ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے امام زفر سے سنا کہ ہم قیاس اسی وقت کرتے ہیں کہ جب قرآن و حدیث سے کسی دلیل کو اس کے بارے میں پاتے اور جب ہمیں قرآن و حدیث سے کوئی دلیل ملتی ہے تو قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں۔

(الجواهر المضية في طبقات الحنفية، جلد 1، صفحہ 534، میر محمد کتب خانہ، کراچی)

فضل بن دکین امام زفر کے علمی مقام کے معترف

فضل بن دکین کہتے ہیں کہ ”وَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ الْإِمَامُ لَزِمَتْهُ لِأَنَّهُ كَانَ أَفْقَهُ أَصْحَابِهِ وَأَوْرَعَهُمْ فَأَخَذَتْ الْحَظَّ الْأَوْفَرَ مِنْهُ“ ترجمہ: جب امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا تو میں نے امام زفر کی صحبت اختیار کی کیونکہ وہ سب سے زیادہ فقیہ اور سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار تھے۔ میں نے بہت سارا فیض ان سے حاصل کیا۔

(الجواهر المضية، جلد 2، صفحہ 535، میر محمد کتب خانہ، کراچی)

امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) بحیثیت صدر صاحب

امام اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے بعد ان کی حیثیت اصحاب ابی حنیفہ اور ان کی مجالس میں صدر کی سی ہوتی جیسا کہ مغانی میں ہے ”وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهَبٍ: كَانَ زُفَرٌ أَحَدَ الْعَشْرَةِ الْأَكْبَرِ الَّذِينَ دُونُوا كُتُبَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَانَ زُفَرٌ، رَحِمَهُ اللَّهُ، رَأْسَ حَلْقَتِهِ“ ترجمہ: محمد بن وہب سے ہے کہ زفر صاحب ان دس اکابر افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے کتب ابی حنیفہ مدون کیں اور اس حلقے کا مرکز یا بنیاد امام زفر ہی تھے۔

(مغانی الاخیار فی شرح اسامی رجال الباب الزاء، جلد 1، صفحہ 331 دار الکتب العلمیہ، بیروت)

امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کا مخالف قابل رحم ہوتا

سیر اعلام النبلاء میں ہے ”وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ اللَّؤْلُؤِيُّ: مَا رَأَيْتُ
فَقِيهَا يُنَاطِرُ زُفَرَ إِلَّا رَحِمَتْهُ“ حسن بن زیادہ کہتے ہیں کہ میں جس فقیہ کو امام زفر کے ساتھ
مناظرہ کرتے دیکھتا تو مجھے اس پر ترس آتا۔ (یعنی اس بے چارے کو شاید امام زفر کی علمی
شان معلوم نہیں، اس لئے اس نے امام زفر سے مناظرہ کرنے کی جرأت کی ہے۔)

(سیر اعلام النبلاء، جلد 7، صفحہ 144، دار الحديث، القاهرة)

جس سمت آگئے ہیں سکے بشہادینے ہیں

ہر عاقل بخوبی جانتا ہے کہ جب دو افراد کی کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو ایک
جانب عموماً سبقت کر جاتی ہے جس کے مقابل دوسرے کو خاموش ہونا پڑتا ہے مگر اسے
مطمئن کرنا کہ میں غلط ہوں اور آپ حق پر ہیں اور اس کا یقین کے ساتھ اس بات کو سمجھ کر
مان لینا کہ واقعی میں غلطی پر ہوں کوئی عام بات نہیں کہ اس کے لئے اپنا دعویٰ اور پھر اس کے
مطابق دلائل، سامنے والے کے دعویٰ و دلائل کی کمزوری اور پھر مزید دلائل سے اس کے
موقف کو اس کی نظر میں باطل قرار دینے کے لئے فقط علم ہی نہیں بلکہ ذہانت و سمجھ داری، دو
سرے کی عقل کے مطابق دلیل دینا اور اسے اپنے موقف سے رجوع کرنے پر آمادہ کیسے
کرنا ہے ہر ایرے وغیرے کا کام نہیں بلکہ یہ اللہ عز و جل کی ایک خاص نعمت ہے جو وہ اپنے
بندوں میں سے بعض کو عطا فرماتا ہے، اللہ عز و جل نے یہی مہارت و نعمت امام زفر کو عطا فرما
کی تھی۔ اخبار ابی حنیفہ میں ہے ”حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ
مُحَمَّدٍ الصِّمَرِيُّ بِغَدَادٍ فِي مَسْجِدِ دَرْبِ الزَّرَادِيِّنَ وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةِ
أَرْبَعٍ وَارْبَعِمِائَةٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الْمَسْكِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّجَعِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ

قَالَ ثَنَا وَلِيدُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَنْظُرُ زُفَرَ إِلَّا رَحِمْتَهُ قَالَ وَقَالَ زُفَرَانِي لَسْتُ أَنْظُرَ أَحَدًا حَتَّى يَقُولَ لَقَدْ أَخْطَأْتُ وَلَكِنْ أَنْظُرُهُ حَتَّى يَجْعَلَ قِيلَ فَكَيْفَ يَجْعَلُ قَالَ يَقُولُ بِمَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ“ ترجمہ: حسن بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے جسے بھی امام زفر کے ساتھ مناظرہ کرتے دیکھا تو مجھے اس پر ترس ضرور آیا اور فرمایا: امام زفر نے کہا: میں جس کے ساتھ بھی فقہی مناظرہ کرتا ہوں تو صرف اس کے اتنا کہنے تک نہیں کرتا کہ وہ کہنے لگے: میں نے خطا کی بلکہ اس وقت تک مناظرہ کرتا ہوں جب تک وہ دیوانہ نہ ہو جائے، پوچھا گیاد یوانہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: وہ ایسی بات کہنے لگے جو کسی نے بھی نہ کہی ہو۔ (یعنی ایسی بات جس کا باطل ہونا بالکل ظاہر ہو۔)

(اخبار ابی حنیفہ واصحابہ، جلد 1، صفحہ 110، عالم الکتب، بیروت)

امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کے علم کی طرف لوگوں کا میلان

الطبقات السنیۃ میں ہے ”وعن الحسن بن زیاد، قال: کان المقدم فی أصحاب أبی حنیفۃ فی مجلسہ زفر، وکان قلوبہم إلیہ أمیل“ ترجمہ: حسن بن زیاد سے ہے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی مجلس میں زفر بن ہذیل سب سے مقدم تھے اور ان سب کے قلوب آپ کی طرف مائل تھے۔

(الطبقات السنیۃ فی تراجم الحنفیۃ، حرف الزاء، زفر، صفحہ 284)

آپ سے تابعین کی والہانہ محبت و عقیدت

اخبار ابی حنیفہ میں ہے ”اخبرنا عبد اللہ بن مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ أَنبَأَ أَبُو بَكْرٍ الدَّامَغَانِيُّ الْفَقِيهَ قَالَ أَنبَأَ الطَّحَاوِيُّ قَالَ أَنبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَسَدٌ قَالَ قَدِمَ زُفَرُ الْبَصْرَةَ فَدَخَلَ مَسْجِدَهَا فَانْقَضَتْ إِلَيْهِ حُلُقُ أَصْحَابِ التَّابِعِينَ“ ترجمہ: ہمیں یہ بات عبد اللہ بن محمد اسدی سے پہنچی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر

دی ابوبکر نے اور انہیں بتایا امام طحاوی نے اور امام طحاوی کو سلیمان بن عمران نے اور انہیں اسد نے بتایا کہ جب امام زفر بصرہ کی مسجد میں داخل ہوئے تو تابعین کا ایک گروہ آپ کی طرف لپکا۔

(اخبار ابی حنیفہ واصحابہ، جلد 1، صفحہ 113، عالم الکتاب، بیروت)

❁ فصل خامس: آپ کی سیرت کے مختلف پہلو

اس فصل میں امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی سیرت مطہرہ کو چند ایک پہلو سے ذکر جائے گا جس میں امام زفر کی احتیاطیں، کسی سائل کو سوال کا جواب دینے سے پہلے اس سے مختلف و ضروری وضاحت لینا، امام زفر کی طبیعت، امام زفر کی صلاحیت، آپ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کا تقویٰ، آپ تصوف میں کس کی اتباع کرتے؟ بصرہ آنے کی وجہ، آپ کی نصیحت، مفتیان دین کے لئے امام زفر کے قول پر تقویٰ دینے کا ضروری اصول، آپ کی حکمت عملیاں، اس کے ساتھ ساتھ علم کلام میں آپ کا طرز زندگی کیا تھا؟ اسے بیان کیا جائے گا۔ چنانچہ:-

آپ کی احتیاط اور صلاحیت کی ایک جھلک

بعض کتب میں کچھ یوں ہے جیسے وفیات الاعیان میں ہے ”حکمی المعافی بن زکریا فی کتاب ”الجلیس والانیس“ عن عبد الرحمن ابن مغراء قال: جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال: إني شربت البارحة نبيذاً ولا أدري أطلقت امرأتی أم لا، قال: المرأة امرأتک حتی تستیقن أنك طلقتهـا۔ ثم أتى سفيان الثوري فقال: يا أبا عبد الله إني شربت البارحة نبيذاً ولا أدري طلقت امرأتی أم لا، قال: اذهب فراجعها فإن كنت طلقتهـا فقد راجعتها، وإن لم تكن طلقتهـا فلم تضرك المراجعة شيئاً ثم أتى شريك بن عبد الله فقال: يا أبا عبد الله إني شربت البارحة

نبیذاً، ولا أدري طلقت امرأتی أم لا، قال: اذهب فطلقها ثم راجعها ثم أتى زفر
 بن الهذیل فقال: یا أبا الهذیل إني شربت البارحة نبیذاً ولا أدري طلقت امرأتی
 أم لا، قال: هل سألت غیری قال: أبا حنیفة قال: فما قال لك قال قال: المرأة
 امرأتك حتی تستیقن أنك قد طلقته، قال: هو الصواب، قال: فهل سألت غیره
 قال: سفيان الثوري، قال: فما قال لك قال: اذهب فراجعها فإن كنت طلقته فقد
 راجعتها، وإن لم تكن طلقته فلم تضرك المراجعة شيئاً، قال: ما أحسن ما قال
 لك، فهل سألت غیره قال: شريك بن عبد الله، قال: فما قال لك قال: اذهب
 فطلقها ثم راجعها، قال: قضحك زفر وقال: لأضربن لك مثلاً، رجل مر بمشعب
 سيل فأصاب ثوبه، قال لك أبو حنیفة: ثوبك طاهر وصلاتك معززة حتی
 تستیقن أمر الماء، وقال لك سفيان: اغسله فإن يك نجساً فقد طهر، وإن يك
 طاهراً زاده نظافة، وقال لك شريك: اذهب قبل عليه ثم اغسله قال المعافى: وقد
 أحسن زفر فی فصله بین هؤلاء الثلاثة فيما أفتوا به فی هذه المسألة، وفيما
 ضربه لسائله من الأمثلة فأما قول أبي حنیفة فهو محض النظر وأمر الحق ولا
 يجوز أن يحكم على امرء فی زوجته بطلاقها بعد صحة زوجيتها بظن عرض له
 وهو أبعد عند ذوی الأفهام من أضغاث الأحلام، وأما قول سفيان الثوري فإنه
 أشار بالاستظهار والتوثيق والأخذ بالحزم والحیطة وهذه طريقة أهل الورع
 وذوی الاستقصار والمشفقین على نفوسه من أهل الدين، وفتيا أبي حنیفة
 فی هذا عين الحق وجل الفقه - وأما ما أفتى به شريك فتعجب زفر منه واقع
 فی موضعه ولا وجه فی الصبغة لما أشار به - وقد أصاب زفر أيضاً فی الوجه

الذی ضربہ لہ“ ترجمہ: معافی بن زکریا کتاب ”الجلیس والالیس“ میں عبدالرحمن ابن مغراء سے حکایت کرتے ہیں کہ ایک شخص امام ابوحنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے نبیذ پی لی تھی اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے حالت نشہ میں بیوی کو طلاق دی ہے یا نہیں؟ (اسے شک تھا کہ اس نے نشہ میں طلاق دی ہے) امام ابوحنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے ارشاد فرمایا: وہ بدستور تیری بیوی ہے حتیٰ کہ تجھے طلاق کا یقین ہو جائے پھر یہ سائل سفیان ثوری (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کے پاس فتویٰ لینے حاضر ہوا اور کچھ یوں سوال کیا کہ یاسیدی! میں نے نبیذ پی لی تھی اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے حالت نشہ میں بیوی کو طلاق دی ہے یا نہیں؟ سفیان ثوری (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے ارشاد فرمایا: جاؤ اور رجوع کر لو کہ طلاق ہوئی ہوگی تو رجوع سے وہ دوبارہ بدستور تمہاری زوجیت میں آجائے گی اور اگر تم نے طلاق نہ دی ہوئی تو رجعت تجھے کچھ نقصان نہ دے گی پھر وہ شریک بن عبداللہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کے پاس فتویٰ لینے آیا اور عرض کرنے لگا: اے ابو عبداللہ! میں نے نبیذ پی لی تھی اور مجھے یاد نہیں کہ حالت نشہ میں اپنی بیوی کو طلاق دی یا نہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا: بیوی کے پاس جاؤ اور اسے ایک طلاق دو پھر رجوع کر لو پھر یہ شخص مزید فتویٰ لینے کے لئے امام زفر بن ہذیل (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر وہی بات کہنے لگا اے ابو ہذیل! میں نے نبیذ پی لی اور اب مجھے یاد نہیں کہ نشہ کے عالم میں اپنی بیوی کو طلاق دی یا نہیں؟ امام زفر نے اس سے پوچھا: کیا تم نے میرے علاوہ کسی اور مفتی سے بھی یہ مسئلہ پوچھا؟ اس نے کہا کہ ابوحنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے پوچھا ہے۔ امام زفر نے پوچھا کہ امام ابوحنیفہ نے تجھے کیا جواب عطا فرمایا؟ اس نے کہا: امام ابوحنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں کہ جب تک طلاق دینے کا یقین نہ

ہو جائے طلاق نہیں ہوتی لہذا وہ بدستور تیری بیوی ہے۔ امام زفر بن ہذیل نے فرمایا: یہی جواب درست ہے پھر اس (شکی) سے پوچھا: امام ابوحنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے سوا کسی اور سے بھی پوچھا؟ اس نے کہا: حضرت امام سفیان ثوری سے پوچھا ہے۔ استفسار فرمایا: انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا کہ ان کا فرمانا یہ تھا کہ جاؤ اور رجوع کرلو، طلاق ہوئی ہوگی تو رجوع سے وہ دوبارہ تمہاری زوجیت میں آجائے گی اور اگر تم نے طلاق نہ دی ہوئی تو رجعت تجھے کچھ نقصان نہ دے گی۔ امام زفر نے فرمایا: سفیان ثوری نے تجھے بہت اچھا جواب دیا پھر پوچھا کہ ان کے سوا کسی اور سے پوچھا؟ اس نے کہا کہ شریک بن عبداللہ سے پوچھا ہے، استفسار فرمایا: ان کا کیا فرمانا ہے؟ سائل نے کہا: انہوں نے فرمایا ہے: بیوی کو جا کر ایک طلاق دو پھر رجوع کرلو۔ کہتے ہیں کہ یہ جواب سن کر امام زفر کو ہنسی آگئی۔ اس کے بعد امام زفر بن ہذیل (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے فرمایا: میں تیرے وقوع کو ایک مثال کی صورت میں بیان کرتا ہوں اور وہ یہ کہ ایک شخص ایک نالی کے پاس سے گزرا جس کا پانی اس کے کپڑوں کو لگا۔ یعنی تیرے ہی کپڑوں پر نالی کا پانی گرا تو تو نے امام ابوحنیفہ سے مسئلہ پوچھا: کپڑے پاک ہیں یا ناپاک؟ تو امام ابوحنیفہ نے ارشاد فرمایا: تیرے کپڑے پاک ہیں اور تیری نماز جو تو نے ان کپڑوں میں پڑھی وہ بھی صحیح ہے حتیٰ کہ تجھے یقین ہو جائے کہ پانی ناپاک تھا اور جب یہ مسئلہ تو نے سفیان ثوری سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا: کپڑے کو دھو ڈال کہ اگر پانی ناپاک ہو تو کپڑا پاک ہو جائے گا اور اگر پاک ہی تھا تو یہ نفاقت کے زمرے میں داخل ہوگا اور شریک سے پوچھا: تو انہوں نے کہا: جاؤ اس کپڑے پر پیشاب کرو پھر اسے دھو ڈالو۔

معافی کہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں دیئے گئے تین فتاویٰ جانت کی امام زفر (رحمۃ اللہ

تعالیٰ علیہ) نے بہت پیاری تفصیل بیان فرمائی اور جو مثال ان فتاویٰ کو سمجھانے کے لئے ارشاد فرمائی تو اس میں امام ابوحنیفہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کا فتویٰ قیاسی ہے اور یہی حق ہے کیونکہ یہ جائز نہیں کہ نکاح صحیح کے بعد محض شک کی وجہ سے طلاق کا حکم دے کر زوجیت کو ختم کر دیا جائے۔ عقل والوں کے نزدیک یہ بات بعید از فہم اور مہمل باتوں میں سے ہے اور سفیان ثوری کا قول وہ احتیاط کے زمرے میں داخل ہے کہ انہوں نے مذکورہ معاملہ کو یقین کے درجے میں اتار کر اختیار کرنے کی تعلیم دی اور یہی طریقہ اہل ورع کا ہے کہ وہ شک و شبہات میں ہاتھ نہیں ڈالتے جبکہ امام ابوحنیفہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کا فتویٰ عین حق ہے اور جو فتویٰ شریک نے دیا امام زفر کو اس پر بڑا تعجب ہوا اور اس کے صحیح ہونے کی کوئی صورت نہیں اور امام زفر بن ہذیل نے سائل کو مسئلہ سمجھانے کے لئے جس انداز میں جو مثال بیان فرمائی وہ بھی خوب اور درست ہے۔

(وفیات الاعیان، زفر بن ہذیل، جلد 2، صفحہ 318، دارصادر بیروت)

اس طرح کا واقعہ پیچھے بھی گزرا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے۔ بعض نے یوں بھی بیان کیا ہے جیسا کہ اوپر درج ہے۔

یہاں سے چند ایک مدنی پھول معلوم ہوئے کہ سائل اگر آ کر اپنا مسئلہ بیان کرے تو اس کے سوال کو مکمل طور پر سنا جائے۔

(1) اس سے پوچھا جائے کہ مجھ سے علاوہ بھی کسی سے پوچھا ہے۔

(2) اگر کسی اور سے بھی پوچھا ہے تو جن کا جواب کسی جہت سے ٹھیک ہو سکتا ہے

اس کی صحت کو بیان کرے۔

(3) اگر چند ایک سے سائل جواب لے چکا ہو اور سب کا جواب کسی نہ کسی جہت

سے درست ہو مگر انداز و الفاظ مختلف ہوں تو سائل کو ان کے جواب کی جہت سمجھائی جائے۔

(4) اور اگر ممکن ہو تو مثال صحیح سے اس کی صورت مسئلہ کا جواب دیا جائے۔

(5) اور اگر کسی نے غلط جواب دیا ہو اور سائل اگر اس جواب کی غلطی پوچھے تو ہی

بتایا جائے ورنہ آج کل غلطی بتانے کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔

پچھلے واقعہ میں سائل کو جواب دینے کا جو انداز امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے

اختیار کیا وہ یقیناً سائل کو مطمئن کرنے والا تشفی بخش ہے۔ اگر ہم امام زفر کے اس انداز کو

اختیار کر لیں تو آج کل بعض لوگ چند ایک مفتیوں سے مسئلہ پوچھ کر بعد میں جو علماء و مفتیان

دین کے بارے میں فضا قائم کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ فلاں مولوی نے یوں کہا، فلاں نے

اس طرح کا کہا اور فلاں ایسے ایسے کہتا ہے۔ تو علماء کے بارے میں اس فضاء کا خاتمہ ہو سکتا

ہے۔ اللہ عز و جل جواب دینے والوں کی بھی فہم و علم میں برکت و ترقی دے اور سائلین کو بھی

عقل سلیم عطا فرمائے۔

امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی طبیعت کیسی تھی؟

اللہ عز و جل جسے اس قدر صلاحیتوں سے نوازتا ہے تو اس کی طبیعت میں عاجزی و

انکساری اور حق کو قبول کرنے جیسی گراں قدر نعمتیں بھی پیدا فرماتا ہے۔ غرور، تکبر، دوسروں

کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا اپنی ہی بات کو حرف آخر سمجھنے جیسی تباہ کن آفتوں سے محفوظ فرماتا

ہے۔ اللہ عز و جل نے آپ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی طبیعت میں حق کو قبول کرنے کا جذبہ و

شوق اس قدر پیدا فرمایا تھا کہ وضوح حق کے بعد رجوع سے ذرا برابر بھی تامل نہ کرتے۔

چنانچہ محمد بن حبان بن احمد لکھتے ہیں: "مائل الی الحق و کان إذا لاح له الحق یرجع

الیہ من غیر أن یتمادی فی باطلہ" ترجمہ: امام زفر کی طبیعت حق قبول کرنے والی تھی۔

جب بھی کبھی حق بات آپ پر ظاہر ہوتی تو بلا چون و چرا کئے، باطل پر قائم رہنے کے بجائے فوراً حق کا دامن تھام لیتے۔

(مشاہیر علماء الامصار، جلد 01، صفحہ 269، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة)

حقیقت یہ ہے کہ خوف خدا رکھنے والوں کا ایک وصف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ حق کی جانب رجوع کرتے رہے ہیں اور حق اور صحیح بات جہاں بھی سامنے آگئی خود کو اس کے سپرد کر دیا اور اس کو اپنی عزت اور انا کا مسئلہ نہیں بناتے۔ امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) میں خوف خدا بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اسی وجہ سے آپ کی طبیعت حق قبول کرنے میں عار محسوس نہ کرتی۔ طبیعت شریف کے مائل الی الحق ہونے کے ثبوت پر ایک اور واقعہ کتب سیر و تاریخ میں ملتا ہے کہ ”عبدالواحد بن زیاد کی امام زفر سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ شبہات کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے مگر قصاص کے بارے آپ کہتے ہیں کہ شبہ کی وجہ سے بھی لیا جائے گا۔ امام زفر نے فرمایا: اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: کافر کے قصاص میں مسلمان کو قتل نہ کیا جائے گا۔ امام زفر نے فرمایا: میں تمہیں ابھی گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے مسئلے سے رجوع کیا۔“

(سیر اعلام النبلاء، جلد 7، صفحہ 145، دار الحديث، القاهرة)

امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی حکمت عملی

یہ بات بہت مشہور ہے کہ اہل کوفہ و بصرہ ایک دوسرے کی سخت مخالفت کرتے تھے اسی سبب سے اہل بصرہ امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی بھی سخت مخالفت کرتے۔ اللہ عز و جل نے امام زفر کو تدبیر و حکمت عملی کی ایسی لازوال دولت عطا فرمائی کہ ان کے مابین نفرت کو امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے محبت میں بدل ڈالا چنانچہ الانتقاء میں ہے

وَلِي قَضَاءِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ قَدْ عَلِمْتَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنَ
 الْعَدَاوَةِ وَالْحَسَدِ وَالْمُنَافَسَةِ مَا أَظُنُّكَ تَسْلَمُ مِنْهُمْ فَلَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ قَاضِيًا اجْتَمَعَ
 إِلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَجَعَلُوا يُنَازِلُونَهُ فِي الْفِقْهِ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ فَكَانَ إِذَا رَأَى مِنْهُمْ قَبُولًا
 وَاسْتِحْسَانًا لِمَا يَجِئُ بِهِ قَالَ لَهُمْ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَكَانُوا يَقُولُونَ وَيُحْسِنُونَ
 أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا فَيَقُولُ لَهُمْ نَعَمْ وَأَكْثَرُ مِنْ هَذَا فَلَمْ يَزَلْ بِهِمْ إِذَا رَأَى مِنْهُمْ قَبُولًا
 لِمَا يَحْتَجُّ بِهِ عَلَيْهِمْ وَرَضِيَ بِهِ وَتَسْلِيمًا لَهُ قَالَ لَهُمْ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَيُعْجَبُونَ
 مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ تَزَلْ حَالُهُ مَعَهُمْ عَلَى هَذَا حَتَّى رَجَعَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَنْ بُغْضِهِ إِلَى
 مَحَبَّتِهِ وَإِلَى الْقَوْلِ الْحَسَنِ فِيهِ بَعْدَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْقَوْلِ السَّيِّئِ فِيهِ “
 ترجمہ: آپ بصرہ کے قاضی مقرر ہوئے تو امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے ان سے فرمایا:
 اے زفر! تمہیں معلوم ہے کہ اہل بصرہ ہم سے عداوت و حسد کرتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم
 وہاں عافیت سے رہو۔ پس جب آپ بصرہ قاضی کے منصب سے تشریف لائے تو بڑے
 بڑے علامہ و فہامہ ان کے پاس تشریف لانے گئے اور آئے دن امام زفر سے فقہ میں مناظر
 ے کرنے لگے، جب آپ محسوس کرتے کہ وہ آپ کی بات کو قبول کرنے پر آمادہ ہیں اور
 آپ کی بات کی خوبی سے آگاہ ہو چکے ہیں تو پھر انہیں بتاتے کہ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔
 یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ میرے موقف کو قبول کرتے اور اس
 کی تحسین کرتے ہیں تو پھر بیان فرماتے کہ یہ قول ابی حنیفہ ہے حتیٰ کہ لوگ امام ابو حنیفہ (رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ) سے محبت کرنے لگے اور اپنے قول سے رجوع کر کے امام صاحب کے قول کو
 اپنانے لگے۔ (الانتقاء فی فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء - صفحہ 174، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مفتیانِ دین کے لئے احتیاطی اصول

جس کے پاس جس قدر زیادہ علم ہوتا ہے اسی قدر اس میں خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حلال و حرام میں کامل احتیاط سے کام لیتا ہے، امام زفر اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی تھے، آپ فتویٰ دینے میں جہاں خود کامل احتیاط یعنی غور و فکر اور وضوح حق اور دلائل شرع میں غور کرنے کے بعد فتویٰ دیتے، وہیں اپنے بعد کے آنے والے مفتیوں کو خبردار کیا کہ ہمارے کسی قول پر فتویٰ دینے سے پہلے تمہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم نے یہ بات کہاں سے کس دلیل سے کہی؟ بغیر اس پر مطلع ہوئے بعد کے مفتیان دین پر اپنے قول پر فتویٰ دینے پر پابندی عائد فرمادی چنانچہ طریق الہدایہ میں ہے ”وزی عن عصام بن یوسف أنه قال: كنت في مأتم فاجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة: زفر بن الهذيل، وأبو يوسف، وعافية بن يزيد، وآخر، فكلهم أجمعوا أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه. انتهى، قلت: ومعنى قوله ”من أين قلناه“ أي ما لم يعلم دليل قولنا وحجته“ ترجمہ: عصام بن یوسف سے مروی کہتے ہیں میں ایک جگہ تعزیت کے لئے گیا، وہاں پڑا صاحب ابی حنیفہ زفر بن ہذیل، ابو یوسف، عافیہ بن یزید اور دوسرے اصحاب موجود تھے۔ ان تمام کے تمام نے اس بات پر اجماع کیا کہ کسی کو بھی جائز نہیں کہ ہمارے کسی قول پر فتویٰ دے جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ہمارے اس قول کی دلیل کیا ہے۔

(طریق الہدایہ، النسخ الرابع، جلد 1، صفحہ 237)

معاصرین سے محبت و عقیدت

معاصرت دلیل منافرت ہوا کرتی ہے جیسا کہ سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا مگر اس کے باوجود امام زفر اپنے معاصرین سے محبت و عقیدت کے مجسمہ

تھے۔ لمحات النظر میں ہے "قال ابن ابی العوام حدثنی محمد بن احمد بن حماد قال سمعت محمد بن شجاع الثلجی ابا عبد الله قال سمعت بعض البصریین يقول لما قدم زفر البصرة لقوه فسأله فاعجبوا به فبلغه انهم قالوا ما رأینا مثل زفر فی الفقه هو اعلم الناس، فقال زفر وبلغه ذلك کیف لورأیتم ابا یوسف؟ یعنی امام زفر جب بصرہ آتے تو لوگ ان سے ملاقات کے لئے حاضری دیتے اور ان سے مسائل پوچھتے اور آپ کے دیئے ہوئے جوابات سے بہت خوش ہوتے، اہل بصرہ کہتے کہ ہم نے امام زفر سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا، جب یہ خبر امام زفر تک پہنچی تو آپ نے فرمایا: انہوں نے امام ابو یوسف کو نہیں دیکھا اس لئے یہ بات کہتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں اگر یہ امام ابو یوسف کو دیکھ لیں تو پھر کیا کہیں گے۔

اسی میں ہے "وحدث عن الطحطاوی عن ابن عمران عن محمد بن سلمة البلخی عن شداد قال سمعت زفر يقول یعقوب یعنی ابا یوسف أفتقه من أتى۔ وبهذا وذاك یكون زفر فضل ابا یوسف علی نفسه رحم الله تلك النفوس الطاهرة ما كان لهوى النفس سلطان علیهم وكانت خدمتهم فی العلم باخلاص لله وفي الله فبارك لهم فی علومهم وما غرهم ثناء الناس علیهم بل وقفوا موقف اتهم النفس نفعنا الله بعلومهم" یعنی امام زفر کا فرمان ہے کہ امام ابو یوسف ہر آنے والے فقیہ سے بڑے ہیں۔ آپ (رحمة الله تعالى علیه) امام ابو یوسف کو اپنی ذات پر فضیلت دیا کرتے۔ اللہ عز وجل ان نفوس قدسیہ پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ وہ نفس کے ہاتھوں کھلونا نہیں بنے، ان کی دین کی خدمت میں سو فیصد اخلاص تھا وہ اللہ کی خوشنودی و رضا کے لئے دین کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کی ثناء و تعریف

انہیں دھوکہ میں نہ ڈال سکی۔ اللہ عزوجل ہمیں ان کے علوم سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
(لمحات النظر، صفحہ 9، المكتبة الازهرية، للتراث، بیروت)

امام زفر (رحمة الله تعالى عليه) ایک صوفی کی حیثیت سے

حسن بن زیاد کہتے ہیں ”کان زفر وداؤد الطائی متواخیین، فاماد داؤد فترك الفقه واقبل على العبادة واما زفر، فجمعهما“ ترجمہ: امام زفر اور حضرت داؤد طائی (مشہور عابد و زاہد) دونوں نے ایک دوسرے سے بھائی کا ہشتہ قائم کیا ہوا تھا۔ داؤد طائی نے آخر میں فقہ کو چھوڑا اور ہمہ تن عبادت کی جانب متوجہ ہو گئے اور امام زفر نے دونوں کو ایک ساتھ جمع کر لیا۔
(سیر اعلام النبلاء، جلد 7، صفحہ 144، دار الحديث، القاهرة)

امام زفر (رحمة الله تعالى عليه) کا زہد و تقویٰ

اپنے زہد و اتقاء و اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی اپنے معاصرین میں ممتاز تھے، ان کی وفات کے بعد لوگوں میں یہ عام چرچا تھا کہ محض آخرت کی باز پرس کے خوف سے ان کا انتقال ہوا۔
(مناقب کمر دری، 189، جلد 2)

قفل مدینہ: نہ فضل گوئی کرتے اور نہ ہی پسند کرتے بلکہ آپ کے قفل مدینہ کا عالم یہ تھا کہ آپ کی صحبت میں موجود لوگوں پر ایک رعب و دبدبہ طاری رہتا کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ دنیاوی معاملات پر گفتگو کرتا اور اگر کبھی کسی سے یہ غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس مجلس سے اٹھ کر چل دیتے۔ آپ اللہ عزوجل سے بہت خائف رہتے تھے۔ الجواہر میں ہے ”عن ابراهيم بن سليمان كان اذا جالسا لم تقدر ان تذكر الدنيا بين يديه وإذا ذكرها واحد منا قام عن مجلسه وتركه في موضعه وكنّا نحدث فيما بيننا أن الخوف قلبه“ ترجمہ: ابراہیم بن سلیمان سے مروی ہے کہ جب ہم امام زفر کی مجلس

اختیار کرتے تو ہم میں سے کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ کوئی ان کے سامنے دنیاوی بات کرے اور اگر کوئی دنیا کی بات کر دیتا تو تشریف لے جاتے اور ہم آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے کہ زفر کو اللہ عز و جل کے خوف نے شہید کر ڈالا۔

(الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، جلد 1، صفحہ 534، میر محمد کتب خانہ، کراچی)

حالانکہ ان کی زندگی بالکل بے داغ تھی، خود فرماتے تھے کہ میں نے اپنے بعد کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کی باز پرس کا مجھے خوف ہو۔ الطبقات السنیة میں ہے ”وعن بشر بن القاسم: سمعت زفر يقول: لا أخلف بعد موتی شیئاً أخاف الحساب علیہ“ ترجمہ: بشر بن قاسم سے ہے کہتے ہیں کہ میں نے زفر بن ہذیل کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اپنے مرنے کے بعد کوئی ایسی چیز چھوڑ کر نہیں جا رہا جس پر مجھے حساب کا خوف ہو۔

(الطبقات السنیة فی تراجم الحنفیة، حرف الزاء، زفر، صفحہ 284)

اخبار ابی حنیفہ میں ہے ”وَكَانَ مِنْ أَهْلِ أَصْفَهَانَ وَمَاتَ اخُوهُ فَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ بِامْرَأَةٍ أَخِيهِ فَلَمَّا احْتَضَرَ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ وَغَيْرُهُ فَقَالُوا لَهُ إِلَّا تَوْصِي يَا أَبَا الْهَذِيلِ فَقَالَ هَذَا الْمَتَاعُ الَّذِي تَرَوْنَهُ لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ آلَافُ الدَّرْهَمِ هِيَ لَوْلَدِ اخِي وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيَّ شَيْءٌ وَلَا لِي عَلَى أَحَدٍ شَيْءٌ وَكَانَ زَفَرٌ شَدِيدَ الْعِبَادَةِ وَالْإِحْتِهَادِ“ ترجمہ: آپ اہل اصفہان میں سے ہیں۔ جب آپ کے بھائی کی وفات ہوئی تو آپ نے اپنے بھائی کی بیوی سے نکاح کر لیا پھر جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ کے پاس امام ابو یوسف و دیگر بزرگ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ زفر کوئی وصیت کرنا چاہو؟ آپ نے فرمایا: یہ ساز و سامان جسے تم دیکھ رہے ہو یہ اس عورت کا ہے اور تین ہزار درہم ہیں جو کہ میرے بھائی کے بچے کے ہیں۔ میں کسی کا مقروض نہیں ہوں اور

نہ ہی میں نے کس سے کچھ لینا ہے۔ امام زفر عبادت و ریاضت پر بڑے کار بند تھے۔

(اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ، جلد 1، صفحہ 111، عالم الکتاب، بیروت)

یحییٰ بن ائیم فرماتے ہیں کہ میرے والد امام صاحب کے بعد امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی مجالس میں اس لیے زیادہ جانا پسند کرتے تھے کہ وہ علم کے ساتھ صاحب ورع و تقویٰ بھی تھے۔

(کردری، جلد 2، صفحہ 182 مناقب)

خود فرماتے تھے ”میں نے دنیا میں رہنے کی کبھی بھی خواہش نہیں کی اور نہ میرا دل کبھی دنیا کے مخرقات کی طرف مائل ہوا۔“

(مناقب کردری، جلد 2، صفحہ 183)

امام زفر تصوف میں داؤد طائی کے نقش قدم پر

کتب سیر و تاریخ میں مراجعت کے بعد جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے سلوک کی منازل طے کرتے کے لئے داؤد طائی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کے دست حق پر بیعت کی اور آپ کے بصرہ جانے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ داؤد طائی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی زیارت کے لئے بصرہ تشریف لائے تھے۔ اخبار ابی حنیفہ میں ہے ”اخبرنا احمد بن محمد الصیرفی قال ثنا علی بن عمرو الحزیر یقال ثنا علی بن محمد النحعی قال ثنا ابو حازم القاضی قال ثنا بکر العمی عن ہلال بن یحیی قال کان زفر یتبع داؤد الطائی حتی ان داؤد لو قعد علی منزلة جاء زفر حتی یقعد معہ علیہا قال و انما قدم زفر البصرہ یزور داؤد الطائی رحمۃ اللہ علیہما“ ترجمہ: امام زفر نے داؤد طائی کے ہاتھ پر بیعت کی حتیٰ کہ داؤد اگر کوڑا کرکٹ پھینکے کی جگہ پر بیٹھتے اور امام زفر تشریف لاتے تو انہی کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ امام زفر بصرہ داؤد طائی کی زیارت کے لئے تشریف لائے تھے۔

(اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ، جلد 1، صفحہ 109-10، عالم الکتاب، بیروت)

کتب سیر و تاریخ میں بصرہ جانے کی چند ایک وجوہات بیان کی گئی ہیں:-

(۱) ترویج مذہب حنفی

(۲) داؤد طائی کی زیارت کے قصد سے

(۳) اپنی بہن کی وراثت کے سلسلے میں

پہلی دونوں وجوہات پیچھے تخریج کے ساتھ بیان ہوئی، تیسری وجہ کے بارے میں

سیر اعلام النبلاء میں ہے ”قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمَلَائِي: كَانَ ثِقَةً، مَأْمُونًا، وَقَعَ إِلَى

الْبَصْرَةِ فِي مِيرَاثٍ لَهُ مِنْ أُخْتِهِ، فَتَشَبَّثَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ، فَلَمْ يَتْرُكُوهُ يَخْرُجُ مِنْ

عِنْدِهِمْ“ ترجمہ: ابو نعیم ملائی کہتے ہیں کہ آپ ثقہ اور قابل اطمینان تھے۔ اپنی بہن کی

وراثت کے حصول کی خاطر بصرہ تشریف لے گئے، اہل بصرہ آپ کے ساتھ اس قدر مربوط

ہوئے کہ انہیں وہاں سے نکلنے کا موقع ہی نہ دیا۔

(سیر اعلام النبلاء، جلد 7، صفحہ 145، دار الحديث، القاهرة)

ان تینوں میں تطبیق ممکن ہے کہ بصرہ میں مذہب حنفی کی ترویج کے سلسلے میں کسی نہ

کسی کی ضرورت تھی تو اس کے لئے امام زفر نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہوگا کہ اور اچھی اچھی

نیوٹوں کے ساتھ داؤد طائی جیسے نیک اور پرہیزگار بزرگ کی نیت بھی کر لی ہوگی اور ضمناً اپنی

بہن کی وراثت کے سلسلہ سے متعلق جو امور ہوں گے انہیں بھی پنپا لیا ہوگا۔ چنانچہ ایک

مضمون نگار لکھتا ہے ”حافظ ابن عبدالبر اور عبدالقادر قرشی نے لکھا ہے کہ امام زفر بصرہ کے

قاضی بھی بنائے گئے تھے اور اہل بصرہ کو امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے مسلک سے جو

کچھ اختلاف تھا اور جو غلط فہمی تھی وہ ان کے قاضی ہی ہونے کے بعد ختم ہوئی۔ الانشاء میں

ہے ”وَلِيَ قَضَاءَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ قَدْ عَلِمْتَ مَا نَيْتْنَا وَنَيْنُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ

مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالْحَسَدِ وَالْمُنَافَسَةِ مَا أَظْنُكَ تَسْلَمُ مِنْهُمْ فَلَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ قَاضِيًا
اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَجَعَلُوا يُنَاطِرُونَهُ فِي الْفِقْهِ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ فَكَانَ إِذَا رَأَى
مِنْهُمْ قَبُولًا وَاسْتِحْسَانًا لِمَا يَحْيَى بِهِ قَالَ لَهُمْ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَكَانُوا
يَقُولُونَ وَيُحْسِنُ أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا فَيَقُولُ لَهُمْ نَعَمْ وَأَكْثَرُ مِنْ هَذَا فَلَمْ يَزَلْ بِهِمْ إِذَا
رَأَى مِنْهُمْ قَبُولًا لِمَا يَحْتَجُّ بِهِ عَلَيْهِمْ وَرَضَى بِهِ وَتَسْلِيمًا لَهُ قَالَ لَهُمْ هَذَا قَوْلُ أَبِي
حَنِيفَةَ فَيُعْجِبُونَ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ تَزَلْ حَالُهُ مَعَهُمْ عَلَى هَذَا حَتَّى رَجَعَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ
عَنْ بُغْضِهِ إِلَى مَحَبَّتِهِ وَإِلَى الْقَوْلِ الْحَسَنِ فِيهِ بَعْدَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْقَوْلِ السَّيِّئِ
فِيهِ "اس عبارت کا مقصود وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے اگرچہ عبارت میں کچھ زائد باتیں
بھی ہیں۔ اس کا ترجمہ شاید کسی اور مقام پر پڑھنے کو ملے گا۔

(الانتقاء، زفر بن ہذیل، جلد 1، صفحہ 4-173، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

مگر یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ وہ بصرہ یا کسی اور جگہ کے قاضی مقرر کیے گئے، عدم
صحت کے وجوہ یہ ہیں:-

(1) سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوار بن عبد اللہ سترہ سال تک بصرہ کے
قاضی رہے جیسا کہ المعارف و دیگر کتب تاریخ میں بالتصریح موجود ہے اور ان کی قضاء کے
تقرر اور وفات کا جو زمانہ ہے اس کے تقریباً دو برس بعد ہی امام زفر کا انتقال ہوا اور اس
دوران جو امام زفر کے حالات زندگی ہیں ان میں کہیں بھی ایسا کچھ نظر نہیں آتا کہ آپ عہدہ
قضا پر فائز ہوئے ہوں بلکہ کتب سیر و تاریخ میں راقم الحروف نے بالتصریح پڑھا ہے کہ
سوار بن عبد اللہ کی وفات کے بعد امام زفر کے سوا کسی اور کا نام عہدہ قضا سے متعلق ملتا ہے
لہذا امام زفر کے بارے میں یہ قول کرنا کہ آپ بصرہ کے قاضی مقرر ہوئے سمجھ سے بالاتر ہے۔

بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ قاضی سوار کے بعد ان کے لڑکے عبداللہ اس عہدہ پر مامور ہوئے اگر یہ روایت صحیح ہے تو پھر امام زفر کے بارے میں عہدہ قضا قبول کرنے کی روایت بالکل ہی بے بنیاد ہے۔

(2) دوسری بات یہ کہ عہدہ قضا قبول نہ کرنے کے سلسلہ میں جو صریح روایتیں موجود ہیں اس کی موجودگی میں مذکورہ روایت بالکل ہی موضوع معلوم ہوتی ہے۔ امام کردری لکھتے ہیں ”اکرہ زفر علی ان یلی القضاء فابی“ ترجمہ: امام زفر کو مجبور کیا گیا کہ وہ عہدہ قضا قبول کر لیں لیکن انہوں نے انکار کیا۔

حکومت کی پیش کش کو ٹھکرانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام کردری لکھتے ہیں ”ہدم منزله واختفی مدة ثم خرج واصلاح منزله ثم هدمه ثانياً واختفی كذلك حتی عفی عنه“ ترجمہ: ان کا گھر گرا دیا گیا اور وہ مدتوں روپوش رہے؛ پھر آ کر انہوں نے اپنا مکان درست کرایا؛ پھر دوبارہ گرا دیا گیا وہ مدتوں روپوش رہے؛ پھر ان کو معاف کیا گیا۔

(کردری، جلد 2، صفحہ 209)

(لمحات النظر، صفحہ 12، المکیة الازهریة، للتراث، بیروت)

اب رہی یہ بات کہ جنہوں نے امام زفر کے قاضی مقرر کیے جانے کی بات کی جیسے حافظ ابن عبدالبر وغیرہ تو ہوا یوں کہ امام زفر کا وہاں جانا، علمی بحث و مباحثہ کرنا، لوگوں کو فقہ حنفی کی طرف مائل کر کے فقہ حنفی کا لوہا منوانے کے ساتھ ساتھ اپنی علمی صلاحیتوں کے پیش نظر ہر عزیز بن جانا اور لوگوں کا آپ کی طرف میلان و رجحان اور محبت و فریفتگی جیسے معاملات کو دیکھ کر بعض نے کہہ دیا کہ آپ وہاں کے قاضی تھے اس لئے وہاں اپنے آپ کو منوانے میں جلد کامیاب ہو گئے حالانکہ ایسا کچھ نہ تھا بلکہ آپ ایک ہیرا تھے جسے اپنی چمک دکھانے کے لئے کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اسے اندھیرے میں بھی رکھا جائے تو

وہ اجالے کی بنسبت زیادہ چمکتا نظر آتا ہے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے اولاً عہدہ قضا کا قبول نہ کیا مگر بعد میں کر لیا ہو۔

واللہ اعلم بالصواب

امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی نصیحت، اقوال اور جوابات

سیر اعلام النبلاء میں ہے ”قَالَ أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ: قَالَ زُفَرٌ: مَنْ قَعَدَ قَبْلَ وَقْتِهِ، ذَلَّ“ ترجمہ: وقت سے پہلے کسی چیز کا مطالبہ کرنا سوائے ذلت کے کچھ نہیں۔

(سیر اعلام النبلاء، جلد 7، صفحہ 145، دار الحديث، القاهرة)

آپ کے اس قول کا مطلب لمحات النظر والے نے کچھ یوں بیان کیا ”یعنی من جعل نفسه مجلساً خاصاً للنشر العلم قبل ان يتكامل في العلم فضحته شواهد الامتحان وتكشف جهله باخطاءه في اجوبة المسائل وكم من ناشئ يعتريه الغرور فيظن بنفسه الاستغناء عن استاذه فيستقل بمجلس في العلم قبل اوانه ثم يعود الى رتبته فيرجع الى ملازمة شيخه“ ترجمہ: یعنی جو ضروری علم کی تکمیل سے قبل ہی حلقہ درس بنا کر بیٹھا اور لوگوں کو علم کی باتیں بتانے میں مشغول ہوا تو اس پر آزما کشوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور سوالات کے غلط جوابات دینے کی وجہ سے اس کی جہالت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے افراد ہیں کہ جو دھوکے میں مبتلاء ہونے کی وجہ سے یہ گمان کرتے لگتے ہیں کہ اب انہیں کسی استاد کی ضرورت نہیں اور وہ خود کو علم کی مجلس میں مستقل سمجھتے ہیں حالانکہ ابھی ان پر یہ وقت آیا نہیں ہوتا تو پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر دوبارہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں رجوع کرنا کر رہ جاتے ہیں۔

(لمحات النظر، صفحہ 14، المكتبة الازهرية، للتراث، بيروت)

لمحات النظر میں ہے ”عن زيد بن اسلم عن ابي عاصم عن زفر في رجل

بنا ع من رجل جارية بالف درهم على ان ينقده الثمن فيما بينه وبين ثلاثة ايام
والا فلا بيع بينهما قال: البيع فاسد“ ترجمہ: زید بن اخزم ابو عاصم سے وہ امام زفر سے
اس شخص کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ جس نے کسی کو ہزار درہم کی لونڈی بیچی اور یہ
شرط رکھی کہ وہ اسے تین دن کے اندر اندر ثمن (رقم) دے گا ورنہ یہ خرید و فروخت ختم ہو جا
ئے گی۔ امام زفر نے فرمایا: اس طرح خرید و فروخت کرنا فاسد ہے۔

(لمحات النظر، صفحہ 15، المكتبة الازهرية، للتراث، بیروت)

لمحات النظر میں ہے ”وروی ابن ابی العوام عن الطحاوی عن ابی
العباس الایلی عن زید بن اخزم عن عبد اللہ ابن داؤد: سألت زفر بن الہذیل عن
قرض الخبز فقال لی: لا يجوز الا وزنا“ ترجمہ: ابن ابی عوام امام طحاوی سے وہ ابو العباس
سے وہ زید بن اخزم سے وہ عبد اللہ بن داؤد سے، میں نے امام زفر بن ہذیل سے روٹی
قرض لینے کے بارے سوال کیا تو آپ (رحمة الله تعالى عليه) نے مجھ سے فرمایا: روٹی وزن
کے ساتھ قرض لینی دینی جائز ہے۔ (لمحات النظر، صفحہ 15، المكتبة الازهرية، للتراث، بیروت)
بوجہ تعامل فی زمانہ گنتی کے ساتھ روٹی قرض میں لینا و دینا بھی جائز ہے۔

لمحات النظر میں ہے ”وروی ابن ابی العوام عن محمد بن عبد اللہ بن
سعید البصری عن اسحاق بن ابراہیم الشہیدی عن یحیی بن یمان عن سفیان
عن زفر عن قیس بن جتر قال: مثل عمر بن عبد العزیز فی بنی امیة کمثل مؤمن آل
فرعون“ ترجمہ: ابن ابی عوام محمد بن عبد اللہ بن سعید بصری سے وہ اسحاق بن ابراہیم شہیدی
سے وہ یحیی بن یمان سے وہ سفیان سے سفیان زفر سے زفر قیس بن جتر سے کہتے ہیں بنی
امیہ میں عمر بن عبد العزیز ایسے ہیں جیسے آل فرعون میں سے ایک مؤمن تھا۔ (آل فرعون کا

مومن مشہور ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔)

(لمحات النظر، صفحہ 15، المكتبة الزهرية، للتراث، بيروت)

لمحات النظر میں ہے ”وروی ابن ابی العوام عن الطحاوی عن ابراہیم بن مرزوق عن محمد بن عبد اللہ الانصاری عن الاشعث الحرانی عن عبد الواحد بن صبرة قال كنت عند القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمرو عندهما ایاس بن معاوية فسألتهما رجل عن رجل قال لامرأته أنت طالق ان، فلم يدرياما يجیان به فقالا فته يا ابا واثلة فقال ایاس: هذا رجل أراد أن يطلق امرأته فلم يفعل۔ قال الانصاری: قد كرت ذلك لزر ابن الهذيل فقال: أخطأ ایاس هذا رجل طلق وأراد أن يستثنى فلم يفعل“ ترجمہ: ابن ابی عوام امام طحاوی سے وہ ابراہیم بن مرزوق سے وہ محمد بن عبد اللہ انصاری سے وہ اشعث حرانی سے وہ عبد الواحد بن صبرہ سے کہتے ہیں کہ میں قاسم بن محمد اور سالم بن عبد اللہ بن عمر کے پاس تھا اور ان دونوں حضرات کے پاس ایاس بن معاویہ موجود تھے ان دونوں سے ایک شخص نے ایسے بندے کے بارے سوال کیا جس نے اپنی بیوی سے کہا تھا: تو طلاق والی ہے اگر (یعنی جزاؤں کر دی اور شرط میں سے صرف اگر کا لفظ ذکر کیا)۔۔۔ پس ان دونوں کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا جواب دیں تو انہوں نے کہا: ابو واثلہ تم فتویٰ دو، پس ایاس نے کہا: اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا مگر دی نہیں۔ انصاری کہتے ہیں: میں نے یہ سنا زانا جبرا امام زفر کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے فرمایا: ایاس نے فتویٰ دینے میں خطا کی۔ یہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے چکا، اس نے استثناء کا قصد کیا تھا مگر استثناء کیا نہیں۔

(لمحات النظر، صفحہ 15، المكتبة الزهرية، للتراث، بيروت)

لمحات النظر میں ہے ”وروی ابن ابی العوام عن ابی بکر محمد بن

ہارون بن حسان البرقی عن بکر بن القاسم عن یحییٰ بن المغیرۃ القرشی عن سعید بن اوس قال: سمعت زفر یقول: فی رجل اسقط سجدة من رکعة فاستوا قائلما قبل ان یفتح فاتحه الكتاب: ان یخسر ساجدائم یعود الی استئناف عمله“ ترجمہ: ابن ابی عوام ابو بکر محمد بن ہارون بن حسان برقی سے وہ بکر بن قاسم سے بکر بن یحییٰ بن مغیرہ قرشی سے اور یہ سعید بن اوس سے کہتے ہیں: میں نے امام زفر کو ایک ایسے شخص کے بارے فرماتے ہوئے سنا جس نے رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا اور ابھی فاتحہ شروع نہ کی تھی تو اس کے بارے فرمایا: وہ سجدہ میں جائے پھر اپنی بقیہ نماز کو پورا کرنے کے لئے لوٹے۔

(لمحات النظر، صفحہ 15، المکتبۃ الازہریۃ، للتراث، بیروت)

امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) اور علم کلام

اس زمانہ میں فلسفہ کے اثر سے علماء میں بہت سے ایسے مباحث اور لفظی اختلافات پیدا ہو گئے تھے جن کی حیثیت دین میں تو کچھ نہیں تھی؛ مگر سوء اتفاق سے وہ اُس وقت دیگر مسائل کی طرح اہم ہو گئے تھے اور جو لوگ ان کلامی مسائل اور فلسفیانہ موشگافیوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے دامن پر بھی لوگ دو چار چھینٹیں ڈال ہی دیتے تھے، امام اعظم اور ان کے تقریباً تمام اصحاب و تلامذہ ایسے غیر ضروری مسائل و مباحث سے گریز کرتے تھے؛ مگر پھر بھی لوگوں نے ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دیں جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس وقت قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا مسئلہ عام طور سے موضوع بحث بنا ہوا تھا اور اس کے بارے میں عموماً لوگ ائمہ سے سوالات کرتے تھے، امام زفر گوان لایعنی باتوں سے بہت گریز کرتے تھے؛ مگر پھر بھی کبھی کبھی اس سے متعلق کلام کرنے پر مجبور ہونا پڑتا تھا، ایک روز کسی نے قرآن کے بارے میں پوچھا: انہوں

نے جواب دیا: القرآن کلام اللہ۔ ترجمہ: قرآن کلام الہی ہے۔ یہ نہایت عاقلانہ جواب تھا؛ مگر سائل کا مقصد کچھ اور تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی پھر پوچھا کہ کیا وہ مخلوق ہے؟ امام زفر نے ذرا تند مگر ہمدردانہ لہجے میں فرمایا کہ اگر تم ان دینی مسائل کے سوچنے اور غور کرنے میں مشغول ہوتے جن میں، میں مشغول ہوں تو وہ میرے لیے بھی مفید ہوتا اور تمہارے لیے بھی اور جن مسائل کی فکر میں تم پڑے ہوئے ہو وہ تمہارے لیے مضر ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں ثابت کرو جن سے وہ خوش ہو اور جن چیزوں کا تم کو خدا نے مکلف نہیں بنایا ہے اس میں اپنی جان ناحق نہ کھپاؤ۔ لمحات العطر میں ہے ”عن الحسن بن زیاد سمعت زفر بن الہذیل وسأله رجل فقال له: القرآن کلام اللہ۔ فقال له الرجل: أمخلوق هو؟ فقال له زفر: لو شغلك في مسألة أنا فيها أرجو أن ينفعني الله بعملها لشغلك ذلك عن ذلك الذي فكرت فيه، والذي فكرت فيه، والذي فكرت فيه بلا شك يضرك، سلم الله عز وجل مريضاً به منك ولا تكلف نفسك مالا تكلف“ (لمحات النظر، صفحہ 17، المكتبة الأزهرية، للتراث، بیروت)

ایک بار حسن بن زیاد (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) سے کسی نے کہا کہ امام زفر نے علم کلام میں غور و خوض کیا تھا؟ حسن نے کہا: سبحان اللہ! کیا سطحی بات تم نے کی، ہمارے اصحاب کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ انہوں نے علم کلام میں غور کیا تھا یا نہیں؟ وہ اس سے بڑی چیز کے حامل تھے، وہ علم و فضل کی کان تھے، ہمارے اصحاب تو ”کانوا اعلم بحدود اللہ“ ترجمہ: وہ حدود اللہ سے خوب واقف تھے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کا مشغلہ یہ نہیں تھا کہ وہ ان مسائل میں جو نہ تو دنیا کی زندگی میں مفید ہوں اور نہ آخرت میں اپنا وقت ضائع کریں؛ بلکہ وہ حدود اللہ کی پاسبانی اور نگہبانی میں اپنی زندگی خرچ کرتے تھے، جو صرف ان ہی کے لیے

نہیں بلکہ پوری مخلوق خدا کے لیے دونوں جہاں میں مفید ہیں۔ تحریم النظر فی کتب الکلام میں ہے ”وقال: عن الحسن بن زیاد اللؤلؤی، قال لهُ رَجُلٌ فِی زُفَرٍ بِنِ الْهُذِلِ أَكَّانَ يَنْظُرُ فِی الْكَلَامِ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَحْمَقَكَ، مَا أَدْرَكَتْ مَشِیْخَتَنَا زُفَرَ وَأَبَا یُوسُفَ وَأَبَا حَنِیْفَةَ وَمَنْ جَالَسَنَا وَأَخَذْنَا (عَنْهُمْ هَمَّهُمْ) غَيْرُ الْفِقْهِ وَالْإِقْتِدَاءِ بِمَنْ تَقَدَّمَ هُمْ“ ترجمہ: ایک شخص نے حسن بن زیاد لؤلؤی سے زفر بن ہذیل کے بارے سوال کیا کہ کیا وہ علم کلام میں بھی نظر کرتے تھے؟ تو ارشاد فرمایا: سبحان اللہ! تو عجیب بیوقوف ہے، ہمارے بزرگوں یعنی زفر، ابو یوسف اور ابو حنیفہ اور ہم نے جن کی مجلس اختیار کی، میں نے انہیں فقہ اور بڑے بزرگوں کی اقتداء کے سوا کسی اور شے کو اہمیت دیتے ہوئے نہ پایا۔

(تحریم النظر فی کتب الکلام، جلد 1، صفحہ 46، عالم الکتب، السعودیہ، الریاض)

امام زفر کی شان میں کہے گئے اشعار

ترجمہ: بعض نے امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی مدح سرائی میں اشعار بھی کہے، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:-

إِن الْقِيَّاسَ جَلَّامِرَّاتُهُ زُفَرٌ... فَمُنْكَرُوهُ لِمَا قَدْ نَالَهُم زُفَرُوهَا

بے شک امام زفر نے قیاس کے دُھندلے آئینے کو روشن کیا، پس جب وہ قیاس کے منکروں سے مقابلہ میں آئے تو منکروں نے بھی سر تسلیم خم کر دیا۔

قَوْسُ الْقِيَّاسِ بِهِ كَانَتْ مُؤْتَرَةً... مَا عَاشَ فَلَانَ لَا قَوْسٍ وَلَا وَتَرَ

جب تک وہ زندہ رہے تب تک قیاس کی کمان پر تانت چڑھا رہا تھا اور اب نہ کمان ہے اور نہ ہی تانت۔

لَقَدْ حَوَى فِي قِيَاسِ الْفِقْهِ مَرْتَبَةً... عَلَيْهِ (قَدْ) حَسِرَتْ مِنْ دُونِهَا الْفِكْرُ
آپ فقہ میں قیاس کے اس مقام پر فائز تھے کہ جس کے بغیر نظر و فکر کف افسوس ملتی رہ جاتی
ہے۔

قِيَاسُهُ قَدْ صَفَا فِي بَحْرِ خَاطِرِهِ... وَحَاسِدُوهُ لِشُومِ الْحَقِّ قَدْ كَدِرُوا
خیالات کے سمندر میں آپ کا قیاس اجلا اور صاف ستھرا ہوتا تھا اور آپ کے حاسد کینہ کی
نحوست کی وجہ سے آپ سے ناراض رہتے تھے۔

غَدَا لِكُسْرِ قِيَاسِ النَّاسِ جَابِرُهُ... وَهُمْ بِحَقِّهِمْ مِنْ جَبْرِهِ انْكَسَرُوا
آپ لوگوں کے ٹوٹے پھوٹے قیاس کو درست کرنے والے تھے اور لوگ آپ کی اس درستی
سے بغض رکھنے کی وجہ سے خود ٹوٹ گئے۔

مَا لَا يُسَاوِيهِ فِي أَوْقَاتِهِ أَحَدٌ... هَلْ يَسْتَوِي الذَّهَبُ الْإِبْرِيْزُ وَالْحَجَرُ
ختم سخن اس پر کہ آپ کے زمانے میں کوئی آپ کا ہم پلہ نہ تھا کیا ابریز اور پتھر خالص سونے
کے برابر ہو سکتے ہیں؟

(الطبقات السنية في تراجم الحنفية، حرف الزاء، زفر، صفحہ 284)

لفظ "الرأى" کی تحقیق

تقریباً تمام مترجمین نے کتاب التراجم میں اور مورخین نے کتب تاریخ میں امام
زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کے حالات میں ذکر کیا ہے "کان صاحب الحدیث ثم
غلب علیہ الرأى" ترجمہ: امام زفر صاحب حدیث تھے پھر بعد میں ان پر رائے غالب
آئی۔ آج کل بعض شریک عناصر "رائے" کا غلط معنی و مفہوم و تشریح بیان کر کے عوام الناس
میں تشویش پیدا کرتے ہیں اور عوام سے کہتے پھرتے ہیں کہ فقہاء احناف اپنی رائے سے

دین کے مسئلے بیان کرتے اور اس میں احادیث نبویہ کی مخالف کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت کو بیان کرنے سے قبل لفظ ”رأے“ کے معنی بیان کئے جاتے ہیں تاکہ قاری کی تفہیم میں تسہیل کا سبب بنے۔ چنانچہ

لفظ ”رأے“ کے مختلف معنی بیان کئے جاتے ہیں۔ جن میں سے چند ایک یہ ہیں:

(1) اعتقاد۔ لسان العرب میں ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں ”والرأی: الاعتقاد“

ترجمہ: رأے کا معنی اعتقاد ہے۔ (لسان العرب، فصل الرأ، جلد 14، صفحہ 300، دار صادر، بیروت)

(2) اصحاب فکر و دانش یعنی انتہائی غور و فکر اور دانشمندی کے ساتھ مسائل کا حل

تلاش کرنے والے۔ التفسیر القرآنی میں ہے ”وفیہم اهل الحل والعقدای

أصحاب الرأی والنظر فکل ذی رأی ونظر، هو من اهل الحل والعقد“ ترجمہ:

اہل حل و عقد سے مراد اہل رأے اور نظر والے ہیں پس جو رأے و نظر کا اہل ہے وہ اہل حل و

عقد ہے۔ (التفسیر القرآنی، فی تفسیر سورة الثوری، جلد 13، صفحہ 67، دار الفکر العربی، بیروت)

(3-4) اجتہاد اور قیاس۔ ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ ”یطلق الرأی علی

الاعتقاد، وعلی الاجتہاد، وعلی القیاس، ومنہ: أصحاب الرأی: ای أصحاب

القیاس“ ترجمہ: رأے کا اطلاق اعتقاد، اجتہاد، اور قیاس پر ہوتا ہے اور اسی سے اصحاب

رأے ہوتا ہے۔ یعنی اصحاب قیاس۔

(التفسیر والمفسرون، التفسیر بالرأی، جلد 1، صفحہ 183، مکتبہ وہب، قاہرہ)

لغت کی مشہور و معروف کتاب ”المنجد“ میں ”رأی“ کے مادہ کے تحت اس کے

کچھ یوں معنی بیان کئے کہ:

رأی: بصارت یا بصیرت سے دیکھنا۔

ارائی، ارعاء: عقل ورائے والا ہونا۔

ترائینانی الامر: ہم نے معاملہ میں غور کیا۔

الرئی: رائے، اعتقاد، تم کہتے ہو ”رائی کذا: میرا اعتقاد ایسا ہے، تدبیر کی رسائی۔

رئی القوم: قوم کا سردار جس کی رائے سے سب اتفاق کریں۔

(المنجد، رای، صفحہ 270، خزینہ علم و ادب، الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور)

(5) کتب میں بعض مقامات پر ”الرئی“ خاص فقہ حنفی کے قیاس کے لئے

استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ تاویل مختلف الحدیث کے حاشیہ میں ہے ”غلب علیہ

الرئی وهو قیاس الحنفیة، وکان یقول نحن لا نأخذ بالرئی ما وجد أثر، وإذا

جاء الأثر ترکنا“ ترجمہ: ان پر رائے غالب آگئی اور رائے سے مراد حنفی مذہب کے

مطابق قیاس کرنا ہے۔ امام زفر فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کے ہوتے ہوئے ہم رائے قائم

نہیں کرتے بلکہ جب حدیث ہم تک پہنچ جاتی ہے تو رائے کو ترک کر دیتے ہیں۔

(حاشیہ تاویل مختلف الحدیث، صفحہ 108، المکتب الاسلامی، مؤسسة الاشراق)

معلوم ہوا کہ ”رئی“ کے مختلف معنی ہیں اگر کسی متکلم کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس

کی مراد یہ ہوگی کہ اس کا عقیدہ یہ ہے۔ اگر کسی سمجھ دار کے ساتھ استعمال ہوگا تو مراد ہوگی کہ

بڑا عقل والا ہے۔ اور اگر کسی مشورہ دینے والے کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی

ہوگا اچھا مشورہ دینے میں مہارت رکھنے والا۔ اور اسی طرح جب کسی فقیہ کے ساتھ یہ

استعمال ہوگا تو اس کی مراد ہوگی قیاس کرنے والا اور جب کسی محدث کے مقابل کسی

دوسرے فرد کے لئے اس کا استعمال ہو تو پھر یہ فقہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ کتب

تراجم و تاریخ حتیٰ کہ شروح حدیث میں جگہ جگہ یہ الفاظ موجود ہوتے ہیں ”اصحاب الحدیث

اصحاب الرئی“ یعنی محدثین کے لئے اصحاب حدیث اور فقہاء کے لئے اصحاب رائے

کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فقط عام قاری کو سمجھانے کے لئے تحریر ہے ورنہ اس کے بعض معانی ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔

بہر کیف عمومی طور پر فقیہ کے نام کے ساتھ ”رای“ کو فقہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اسی لئے ابن قتیبہ نے ”المعارف“ میں فقہاء کا تعارف ”اصحاب الرائی“ کے نام سے کرایا ہے جس میں امام مالک اور دوسرے فقہاء مثلاً امام اوزاعی، ابن ابی لیلی، امام ابوحنیفہ، امام ابی یوسف و امام محمد وغیرہ کو بھی شامل کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں ”لایکون الرجل فقیہاً حتی یکون بصیراً فی الرائی“ ترجمہ: آدمی اس وقت تک فقیہ نہیں ہوتا جب تک وہ بصیر الرائے نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ بے شمار دوسرے اقوال ایسے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ رائی کا فقہ کے معنی میں بھی استعمال عام رہا ہے اور ”اہل الرائی“ اور ”اصحاب الرائی“ سے کتب سیر و تاریخ میں مراد فقہاء ہیں نہ کہ وہ لوگ جو اپنی رائے کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کی قلت معرفت و تدبیر یا فقہ سے نفرت، دوری، یا جہالت، یا بزرگان دین و اولیاء کرام سے بغض کا نتیجہ ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ایسے بے دینوں سے دور رکھے۔

اصحاب رائے کی اصطلاح کا معنی اور وجہ تسمیہ

اصحاب رائے کا معنی فقہاء کرام ہیں جیسا کہ بیان ہو چکا۔ اب اصحاب رائے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یعنی فقہاء کرام کو اصحاب رائے کا نام کیوں دیا گیا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ درحقیقت علمائے اسلاف میں دو گروہ تھے ایک اہل رائے تھا اور ایک اہل حدیث تھا۔ اہل رائے گروہ عراق کے مدرسہ سے تھے اور اہل حدیث حجاز کے۔ اہل رائے کا یہ عمل تھا کہ جس درپیش مسئلہ کے متعلق قرآن یا حدیث یا صحابہ کرام سے اس کا جواب نہ ملتا تو قرآن و

حدیث کی روشنی میں اجتہاد و قیاس کرتے اور اس کا حل نکالتے اور کہہ دیتے کہ اس مسئلہ میں میری رائے یہ ہے۔ جبکہ اہل حدیث (محدثین) کا گروہ اگر اس مسئلہ کا حل قرآن و حدیث سے نہ ملتا تو خاموش رہتے یا بہت کم اجتہاد کرتے۔ تاریخ التشریع الاسلامی میں ہے ”نشأة أهل الرأي وأهل الحديث: عرفنا من قبل أن تفرق الصحابة في الأمصار أحدث حركة علمية في كل مصر تفاوتت في منهجها بتفاوت هؤلاء الصحابة، وتأثر تلاميذهم بهم، وقد تمايز في هذا التفاوت منهجان: أحدهما: منهج ”أهل الرأي“ أو مدرسة الكوفة بالعراق۔ والثاني: منهج ”أهل الحديث“ أو مدرسة المدينة بالحجاز“ ترجمہ: اہل رائے اور اہل حدیث کا آغاز جیسا کہ ہم نے پہلے جانا کہ صحابہ کرام مختلف شہروں میں گئے اور وہاں مختلف مسائل درپیش ہوئے۔ ہر صحابہ کا انداز استدلال مختلف تھا۔ یہی انداز ان کے شاگردوں میں بھی منتقل ہوا۔ اسی تفاوت کے سبب دو گروہ وجود میں آئے ایک اہل رائے جو مدرسہ کوفہ سے تعلق رکھتے تھے اور ایک اہل حدیث (محدثین) جو مدرسہ مدینہ حجاز سے تعلق رکھتے تھے۔

حضرت عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے دور میں کثیر صحابہ کرام تھے جو فقہاء تھے، جب کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا وہ اسے باہم مشاورت و اجتہاد سے حل فرماتے تھے۔ ان میں حضرت ابن مسعود (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ حضرت عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ان کی رائے کو بہت اہمیت دیتے تھے ”وقد عرفت من قبل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل عبد الله بن مسعود إلى أهل الكوفة ليعلمهم، وكانت حركاته واسعة، ونهج تلاميذه من بعده نهجه، فاعتبرت مدرسة ابن

مسعود بالعراق نواة لمدرسة الرأي“ ترجمہ: آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے حضرت ابن مسعود کو کوفہ تعلیم دینے کے لئے بھیجا۔ حضرت ابن مسعود کی فقاہت بہت وسیع تھی اور ان کے شاگردوں میں بھی یہی طریقہ منتقل ہوا تو اس مدرسہ کو عراق میں ابن مسعود کے نام سے جانا گیا اور یہ مدرسہ اہل رائے کی بنیاد تھی۔

(2) اہل حدیث: ان کا تعلق حجاز کے ساتھ تھا جو حضرت ابن عمر و دیگر صحابہ کرام و اسلاف کے پیروکار تھے۔ ”ومذهب مدرسة أهل الحديث: أنهم إذا سئلوا عن شيء، فإن عرفوا فيه آية أو حديثاً أفقوا، وإلا توقفوا“ ان سے جب کسی مسئلہ میں پوچھا جاتا تو اگر یہ اس کے متعلق قرآن یا حدیث سے کچھ جانتے تو فتویٰ دیتے ورنہ توقف فرماتے۔ (تاریخ التشريع الإسلامی، صفحہ 289۔۔۔، مکتبة وهبة، الطبعة: الخامسة)

اہل رائے اور اہل حدیث دونوں گروہ حق پر تھے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے طریقہ پر تھے۔ اہل رائے اجتہاد و قیاس اس وقت کرتے تھے جب ان کے پاس قرآن و حدیث اور صحابہ کرام سے دلیل نہ ملتی تھی۔ اس وقت ان کا اجتہاد کرنا صحابہ کرام کی سنت پر عمل تھا۔ الفقہ و المتفقہ میں حضرت ابوبکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی الخطیب البغدادی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) حضرت علی بن خشرم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے حوالے سے لکھتے ہیں ”کنا فی مجلس سفیان بن عیینہ فقال یا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث لا يقهرکم أهل الرأي ما قال أبو حنيفة شيئا إلا ونحن نروى فيه حديثاً أو حديثين“ ترجمہ: ہم سفیان بن عیینہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے کہ انہوں نے فرمایا اے اصحاب الحدیث حدیث سے فقہی احکام نکالنا سیکھو! اس مسئلہ میں اہل رائے تم پر غالب نہ آجائیں۔ امام ابو حنیفہ نے جو بھی مسئلہ بیان کیا ہے ہم دیکھتے ہیں اس مسئلہ کے

پیچھے ایک یا دو حدیثیں ضرور ہیں۔

(الفقیہ و المتفقہ، جلد 1، صفحہ 549، دار ابن الجوزی، السعودیہ، الطبعة: الثانية، 1421ھ)

”أصحاب الرأي: أصحاب المذهب الحنفی جملة فقهاء العراق الذين

كانوا من مدرسة ابن مسعود كإبراهيم النخعی وحماد بن أبی سلیمان، وأبی

حنيفة، ومحمد بن أبی لیلی وغيرهم“ ترجمہ: اصحاب رائے سے مراد فقہ حنفی کے فقہاء

ہیں جن کا تعلق عراق سے ابن مسعود کے مدرسہ سے تھا۔ جیسا کہ ابراہیم بھی، حماد بن ابی سلمہ

، ابوحنیفہ اور محمد بن ابی لیلہ اور دیگر حضرات۔

(معجم لغة الفقهاء، جلد 1، صفحہ 70، دار التفائس للطباعة والنشر والتوزيع)

النهاية في غريب الحديث والأثر میں ہے ”والمحدثون يُسمون

أصحاب القياس أصحاب الرأي، يعنون أنهم يأخذون برأيهم فيما يشكّل من

الحديث، أو ما لم يأت فيه حديث ولا أثر“ ترجمہ: محدثین قیاس کرنے والے فقہاء

کو اصحاب رائے کا نام دیتے تھے۔ یعنی جس کے حدیث ہونے میں اشکال ہو یا جس معاملہ

سے متعلق کوئی حدیث و اثر نہ ہوتا اسے رائے سے یعنی قیاس سے بتاتے۔

(النهاية، باب الرأ مع الباء، جلد 2، صفحہ 179، المكتبة العلمية، بيروت)

الکلیات میں ہے ”أصحاب الرأي: هم أصحاب القياس، لأنهم يقولون

برأيهم فيما لم يجدوا فيه حديثاً أو أثراً“ ترجمہ: اصحاب رائے سے مراد وہ ہیں جو قیاس

کرنے کے اہل ہیں کیونکہ جس مسئلے میں کوئی حدیث نہیں ہوتی اسے وہ قرآن و حدیث کی

روشنی میں اپنی رائے سے کہتے ہیں۔

(الکلیات، فصل الف والصاد، صفحہ 131، مؤسسة الرسالة، بيروت)

پھر خود امام زفر فرماتے ہیں: ہم کسی مسئلہ میں رائے یعنی قیاس اسی وقت کرتے

ہیں جب ہم اس میں کوئی آیت و حدیث نہیں پاتے۔ نیز یہ بھی یاد رہے رائے کا معنی جس طرح فقہ کے لئے استعمال ہوتا تھا اسی طرح خاص قیاس کے لئے بھی استعمال ہوتا تھا۔

رائے کی اقسام

ہر قول و فعل کے عمومی طور پر دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک اچھا اور دوسرا برا۔ اچھا وہ جو قرآن و حدیث و اسلاف اور عقل سلیم و فطرت کے موافق ہو جبکہ دوسری وہ جو قرآن و حدیث، طریقہ اسلاف کے خلاف ہو۔ لہذا رائے کی دو قسمیں ہیں:-

(1) پسندیدہ رائے۔ پسندیدہ رائے وہ جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو بلکہ

قرآن و سنت کے عین مطابق ہو۔ التفسیر والمفسرون میں ہے ”الرأى الذى يغلب على صاحبه من غير دليل يقوم عليه، أما الذى يشده البرهان، ويشهد له الدليل، فالقول به جائز“ ترجمہ: مذموم رائے وہ ہوتی ہے جو بغیر دلیل کے قائم کی جائے اور جو رائے دلیل کے ساتھ قائم کی جائے اسے بیان کرنا بھی جائز ہے۔

(التفسیر والمفسرون، التفسیر بالرأى، جلد 1، صفحہ 185، مکتبہ وہب، قاہرہ)

بعض دلائل پسندیدہ رائے سے متعلق مزید نیچے درج کئے جائیں گے۔

(2) ناپسندیدہ، مذموم

بعض جاہل قسم کے انسان بلکہ حیوان ”رائے“ جس کا مطلب فقہ اور قیاس ہے

اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنی جہالت کا پرچم لہراتے ہوئے بلا سوچے سمجھے یہ روایت

پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا ”ایاکم واصحاب

الرأى فانهم اعداء الدين اعيثهم السنة ان يحفظوها فقالوا براءيهم فضلوا

واضلوا“ ترجمہ: تم اصحاب رائے سے بچو کہ یہ دین کے دشمن ہیں، انہوں نے سنت کی

حفاظت کی بجائے سنت کے طریقہ کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے اپنی رائے سے کہا خود بھی گمراہ ہوئے اوروں کو بھی گمراہ کیا۔

خلیفہ المسلمین عمر فاروق اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مروی حدیث کا مطلب

اس حدیث کی مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تصریح ہونے کے باوجود آیت و حدیث کو چھوڑ کر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا اور قرآن و سنت کے مقابل اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہوئے اسی پر عمل کرنا۔ ورنہ تو قرآن و سنت سے مسائل کا استنباط تو بالکل درست ہے بلکہ اپنی رائے (اجتہاد) کے ذریعے قرآن و سنت سے مسائل اخذ کرنے کی ترغیب کتب معتمدہ موجود ہے بلکہ بعض صورتوں میں تو علماء پر فرض ہے۔ چنانچہ بخاری کی شرح ابن

بطلال میں ہے ”فقد بین هذا القول من عمر أنه أمر باتهام الرأي فيما خالف

أحكام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وسنته، وذلك أنه قال: (إنهم أعداء

السنن أعتهم أن يحفظوها) وأخبر أنه لما أعياهم حفظ سنن رسول الله قالوا

بآرائهم وخالفوها، جهلاً منهم بأحكام رسول الله وسنته وذلك هو الجرأة

على الله بما لم يأذن به في دينه، والتقدم بين يدي رسول الله، فأما اجتهد

الرأي في استنباط الحق من كتاب الله وسنة رسوله فذلك الذي أوجب الله

على العلماء فرضاً وعمل به المسلمون بمحضر من رسول الله (صلى الله عليه

وسلم) فلم يعنفهم ولا نهاهم عنه؛ -- روى ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس،

وروى أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال ابن

مسعود: (ومن عرض له منكم قضاء بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في

كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه (صلى الله عليه وسلم)، فإن جاءه أمر

لیس فی سنة نبیه فلیقض بما قضی به الصالحون، فإن جاءه ما لیس فی ذلك، فلیجتهد رأیه“ ترجمہ: عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے جو رائے کی مذمت وارد ہوئی ہے یہ وہ ہے جو رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے احکام اور ان کی سنت کے خلاف ہو۔ اور آپ کا یہ فرمان کہ یہ لوگ سنت کے دشمن ہیں۔ حدیث یاد کرنے سے عاجز ہیں۔ یعنی آپ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ حدیث رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو یاد کرنے سے تھک چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی رائے قائم کرتے ہیں اور بوجہ جہالت سنت اور حکم نبوی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا خلاف کرتے ہیں۔ اور یہ بے باکی ہے وہ بات دین میں کہنا جو اس میں ہے نہیں سوائے جرأت کے اور رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی بیان کی ہوئی حدود سے آگے نکلنے کے سوا کچھ نہیں۔ باقی رہا اپنی رائے اجتہاد سے قرآن و سنت سے مسائل کا استنباط کرنا تو اللہ عز و جل نے اسے علماء پر فرض قرار دیا ہے۔ اپنی رائے، اجتہاد سے قرآن سے استنباط کئے ہوئے مسائل پر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی موجودگی میں صحابہ نے اس پر عمل کیا، آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور نہ اپنی رائے سے قرآن سے مسائل اخذ کرنے سے منع فرمایا۔ ابن مسعود، ابن عباس، سے مروی ہے اور ابو معاویہ اعمش سے یہ عمارہ سے اور عمارہ عبدالرحمن بن یزید سے کہ ابن مسعود نے فرمایا: جسے کوئی معاملہ درپیش ہو تو وہ کتاب اللہ کے مطابق عمل کرے، اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ کتاب اللہ میں موجود نہیں تو نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے فیصلے کے مطابق عمل کرے۔ اور اگر سنت رسول میں بھی اس کی کوئی وضاحت نہ ہو تو صالحین کے طریقہ کو اختیار کرے اور اگر ان کے طریقے سے بھی کوئی رہنمائی نہ ملے تو اپنی رائے قائم کرے۔

(شرح بخاری لابن بطلال، کتاب التعبير، باب ما یدکر من ذم الراي، جلد 10، صفحہ 354، الرياض)

پھر بخاری کی شرح ابن حجر کی فتح الباری میں ہے ”فظاهر فی أنه أراد ذم من قال بالرأی مع وجود النص من الحديث“ ترجمہ: عمر بن خطاب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ہونے کے باوجود اپنی رائے پر عمل کرنا۔

(فتح الباری، باب ما یدکر من ذم الراي، جلد 13، صفحہ 289، دارالمعرفة، بیروت)

بخاری کی تیسری شرح عمدۃ القاری میں ہے ”قلت فی صحته نظر، ولئن سلمنا فإنه أراد به الرأي مع وجود النص“ ترجمہ: یہ حدیث صحیح ہے بھی نہیں اس میں کلام ہے اور اگر اسے صحیح ہی تصور کر لیں تو اس سے مراد اس رائے کی ممانعت ہے جو نص کی موجودگی میں ہو۔

(عمدۃ القاری، باب ما یدکر من ذم الراي، جلد 25، صفحہ 43، دارالمعرفة، بیروت)

الفصول فی الاصول میں ہے ”وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِنَّمَا أَرَادَ مَنْ قَالَ بِالرَّأْيِ قَبْلَ حِفْظِ الْأَصُولِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ“ ترجمہ: یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی مراد یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث اور اجماع کے اصول سمجھنے و یاد کرنے بغیر اپنے رائے قائم کرے۔

(الفصول فی الاصول، جلد 4، صفحہ 68، بَابُ ذِكْرِ الدَّلَالَةِ عَلَى إِبْطَالِ الْجَهْدِ، الكویتیة)

المبسوط لسرخسی میں ہے ”فإنه لا يستقيم أن يكون صاحب رأي ليس له علم بالسنة والأحاديث فمثله يضل الناس كما ورد به الأثر إياكم وأصحاب“ ترجمہ: جسے قرآن و حدیث کا علم نہیں اس کی رائے درست نہیں ہو سکتی۔ یہی لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے (عمر بن خطاب) سے اثر وارد ہوا۔

(المبسوط لسرخسی، کتاب ادب القاضي، جلد 16، صفحہ 109، دارالمعرفة، بیروت)

امام سرخسی فرماتے ہیں ”وأما عمر رضي الله عنه فالقول عنه بالرأي أشهر

من الشمس وبه يتبين أن مراده بدم الرأي عند مخالفة النص أو الإعراض عن النص فيما فيه نص والاشتغال بالرأي الذي فيه موافقة هوى النفس“ ترجمہ: حضرت عمر کا قیاس کے متعلق فرمانا سورج سے بھی زیادہ روشن ہے کہ اس سے مراد باطل قیاس ہے جو نص کے مخالف ہو یا اس سے مراد نفس کی اتباع میں نص سے اعراض کرنا ہے۔

(اصول السنن جلد 2، صفحہ 132، دار المعرفة، بیروت)

بعض احادیث و اسلاف سے جو اہل رائے کی مذمت وارد ہے اس سے ہرگز فقہائے کرام کا یہ گروہ مراد نہیں بلکہ اس سے مراد وہ جاہل و بے دین ہیں جو بغیر علم کے اپنی رائے سے عقائد و فقہ میں فتوے دیتے ہیں جیسا کہ موجودہ دور کے جہلاء ہیں۔ العدة فی اصول الفقہ میں قاضی ابویعلیٰ، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفی: 458ھ) لکھتے ہیں ”عن الإمام أحمد أنه لا يروى الحديث عن أصحاب الرأي، ثم بين المؤلف مراد الإمام أحمد بقوله: وهذا محمول على أهل الرأي من المتكلمين، كالقدرية ونحوهم“ ترجمہ: حضرت امام احمد بن حنبل (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے جو قول مروی ہے کہ اصحاب الرائے سے حدیث روایت نہ کرو۔ مؤلف نے اس کا مطلب بیان کیا ہے اور ان کی یہ بات ان اہل رائے پر محمول ہے جو بد عقیدہ ہیں جیسے قدریہ فرقہ وغیرہ۔

(العدة فی اصول الفقہ، جلد 1، صفحہ 56)

ان ابا بکر هو خليفة المسلمين وهؤلاء هم كبار الصحابة وهم اصحاب الرأي“ ترجمہ: خلیفہ المسلمین ابو بکر اور عمر و عثمان و علی سب کبار صحابہ ہیں اور یہی اہل رائے ہیں۔ (تاریخ القرآن الکریم، الباب الثانی، الفصل الاول، جلد 1، صفحہ 30، مکتبہ المکرمہ)

لگے ہاتھوں اس بے بنیاد اعتراض کا جواب بھی دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ:

اگر فقہاء احناف احادیث کے عامل تھے تو پھر انہوں نے

کئی ایک احادیث پر عمل کیوں نہ کیا؟

اس سوال کے جواب میں جامع نور میں علامہ اسید الحق صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا تھا وہ یہاں نقل کیا جاتا ہے؛ چنانچہ لکھتے ہیں ”گزشتہ چند دہائیوں سے عالم اسلام میں ایک ایسا طبقہ ابھر کر سامنے آیا ہے جو عمل بالحدیث کا دعویدار ہے، اس طبقہ کے افراد اپنے علاوہ باقی تمام مسلمانوں کو تارک حدیث قرار دیتے ہیں، برصغیر ہندوپاک میں چونکہ احناف کی اکثریت ہے اس لیے اس طبقہ کے مجتہدین، مصنفین اور واعظین کی کرم فرمائیاں مقلدین احناف، فقہاء احناف اور ائمہ احناف پر زیادہ ہوتی ہیں، اس طبقہ کا ہر خاص و عام آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ امام ابو حنیفہ نے فلاں فلاں مسائل میں حدیث نبوی کی مخالفت کی ہے، احناف کی طرف سے ہر چند ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ امام اعظم نے اگر اس مسئلہ میں فلاں حدیث کو ترک کیا ہے تو اس کے فلاں فلاں اسباب ہیں مگر یہ طبقہ کسی طور مطمئن ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اس طبقہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یوں تو یہ کسی بھی امام یا فقیہ کی تقلید کو حرام یا شرک قرار دیتا ہے مگر (اقرار اُنہ سہی) عملاً بے شمار مسائل میں شیخ ابن تیمیہ کی تقلید کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ شیخ ابن تیمیہ کی بعض خلاف جمہور آراء کی وجہ سے ہمارے اسلاف نے ان کو اہل سنت میں شمار نہیں کیا ہے۔ شیخ ابن تیمیہ نے بہت سی کتب تصنیف کی ہیں، اس وقت ان کا ایک مختصر رسالہ ”رفع السلام عن الأئمة الأعلام“ میرے پیش نظر ہے اس رسالہ میں شیخ موصوف نے ائمہ پر ترک حدیث کے الزام کا تحقیقی جائزہ لیا ہے، میں یہاں اس رسالہ سے بعض اہم نکات ہدیہ قارئین کرنا چاہتا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ ائمہ پر ترک حدیث کا الزام لگانے والے

حقیقوں کی مانیں نہ سہی مگر کم از کم اپنے امام اور شیخ الاسلام و المسلمین کی تو مانیں، شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں: ”اللہ اور رسول کی محبت کے بعد ہر مسلمان پر مومنین اور خاص کر علما کی محبت واجب ہے اس لئے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجوم ہدایت بنایا ہے کہ ان سے تاریکیوں میں نور حاصل کیا جاتا ہے، ان علما کے ہدایت یافتہ اور صاحب درایت ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔۔۔ جان لو کہ وہ ائمہ جن کو امت میں قبول عام حاصل ہے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قصد اور عمدہ رسول گرامی کی سنت کی مخالفت کرے اس لیے کہ ان سب کا اتفاق ہے کہ رسول خدا کی اتباع ہر حال میں واجب ہے، اور ان کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول کے سوا ہر انسان کے قول میں اخذ و ترک کا اختیار ہے، لیکن اگر ان ائمہ میں سے کسی امام کا کوئی قول ایسا ملے جس کے خلاف حدیث صحیح موجود ہو تو یقیناً اس حدیث کو ترک کرنے کا کوئی نہ کوئی عذر اور سبب ان کے پاس ضرور ہوگا، ترک حدیث کے بنیادی اعذار اور اسباب تین ہیں:

(1) وہ امام اس کو حدیث رسول تسلیم نہیں کرتے۔

(2) وہ تسلیم نہیں کرتے کہ حضور نے اس قول سے یہ مسئلہ مراد لیا ہے۔

(3) وہ امام اس حدیث کو منسوخ مانتے ہیں۔

ان تین اعذار سے متعدد اسباب متفرع ہوتے ہیں۔ ((اس کے بعد شیخ ابن تیمیہ

نے دس اسباب کا ذکر کیا ہے جن کی بنیاد پر کوئی امام و مجتہد حدیث کو ترک کرتا ہے، ان دسوں

اسباب کا خلاصہ پیش خدمت ہے:-

پہلا سبب:- اس امام تک وہ حدیث پہنچی ہی نہ ہو، اور جس کے پاس حدیث پہنچی

ہی نہیں وہ اس کے حکم کو جاننے کا مکلف ہی نہیں ہے، جب اس تک حدیث نہیں پہنچی تو اب

وہ اس مسئلہ میں اپنی رائے کی بنیاد یا تو قرآن کریم کے ظاہر پر رکھے گا یا کسی دوسری حدیث کے مطابق، یا پھر قیاس و استصحاب پر، تو ظاہر ہے کہ اس کی رائے کبھی اس (پہلی) حدیث کے مطابق ہوگی اور کبھی مخالف، ائمہ سلف کے جو اقوال بعض احادیث کے خلاف پائے جاتے ہیں ان میں غالب اور اکثری سبب یہی ہے۔ ((اس کے بعد شیخ نے سلف کے چند واقعات نقل کیے ہیں جن میں بعض صحابہ یا تابعین تک حدیث نہیں پہنچی تھی اور انہوں نے مسئلہ کی بنیاد کسی دوسری دلیل پر رکھی تھی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی ”الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف“ میں اسباب اختلاف کے ذیل میں اس سبب کا ذکر کیا ہے، اس پر مجھے چند باتیں عرض کرنا ہے:-

اولاً تو یہ کہ اس سبب کو اکثری سبب قرار دینا ہمیں تسلیم نہیں ہے، بعض عجلت پسند لوگ جب بھی کسی امام کا کوئی قول کسی ظاہر حدیث کے خلاف دیکھتے ہیں تو ترک حدیث کے باقی نو اسباب فراموش کر کے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ان کو فلاں حدیث نہیں پہنچی۔ دوسرا یہ کہ یہ عذر ان مسائل میں تو تسلیم کیا جاسکتا ہے جن کا وقوع شاذ و نادر ہو، شیخ نے اس سلسلہ میں مثلاً جو واقعات نقل کیے ہیں ان میں سے اکثر اسی قبیل کے ہیں مگر جو مسائل روزمرہ وقوع پذیر ہوتے ہیں ان میں یہ عذر درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رکوع سے قبل اور رکوع کے بعد رفع یدین کیا جائیگا یا نہیں؟ آمین زور سے پڑھی جائے یا ہلکی آواز میں؟ مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اذان و اقامت کے کلمات کتنے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ یہ سارے مسائل ایسے نہیں ہیں جو عمر میں ایک یا دو مرتبہ پیش آتے ہوں اور یہ فرض کر لیا جائے کہ بعض صحابہ یا تابعین یا مجتہدین کو اس سلسلہ میں حدیث نہیں پہنچی ہوگی بلکہ یہ تو ان مسائل میں سے ہیں جن سے ہر مسلمان کا واسطہ دن و رات میں کئی کئی مرتبہ پڑتا ہے

لہذا یہ بات بعید از قیاس اور عقلاً ناقابل قبول ہے کہ ان مسائل میں بعض صحابہ یا تابعین یا بعض ائمہ کو سنت نبوی کی خبر نہ ہو سکی، مثلاً کوئی یہ کہے کہ رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع یدین کرنے کی جو روایت سیدنا ابن عمر سے مروی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ تک نہیں پہنچی اس لیے آپ نے عدم رفع کو اختیار فرمایا یہ بات نہایت سطحی ہے، کیونکہ نماز میں رفع یدین کرنا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو عمر بھر میں صرف ایک دو بار کی جاتی یا رات کی تاریکی میں کی جاتی بلکہ یہ تو ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان علیٰ رووس الا شہادۃ دن میں متعدد مرتبہ کرتا ہے، لہذا یہ بات بعید از قیاس ہے کہ اس سلسلہ کی روایت امام اعظم تک نہ پہنچی ہو، یقیناً وہ روایت آپ تک پہنچی مگر اس کے باوجود آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کو ترک کرنے کا سبب آگے آرہا ہے۔ اسی طرح وہ مسائل جو خود صحابہ کرام کے درمیان مختلف فیہ تھے اور جن کا تعلق روزمرہ کے اعمال سے ہے ان میں بھی یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ ایک فریق کو اس سلسلہ میں حدیث نہیں پہنچی۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ بالفرض اگر کسی امام کے پاس واقعی حدیث نہیں پہنچی اور انہوں نے مسئلہ کی بنیاد کسی اور دلیل پر رکھی مگر جیسے ہی ان کے تلامذہ اور مقلدین کو یہ یقین قطعی ہوا کہ اس مسئلہ میں فلاں حدیث صحیح موجود ہے تو انہوں نے اپنے امام کے قول کو ترک کر کے حدیث پر عمل کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائی مثال کے طور پر امام اعظم نے شوال کے چھ روزوں کو مکروہ فرمایا ہے مگر جب صحیح حدیث سے ان روزوں کا رکھنا ثابت ہو گیا تو بعد کے فقہاء احناف نے ان روزوں کو سنت اور مستحب تسلیم کر لیا، امام اعظم نے مزارعت کو ناجائز فرمایا ہے مگر جب صاحبین اور بعد کے فقہاء کو مزارعت کے جواز کی صریح اور صحیح حدیث پہنچی تو انہوں نے امام اعظم کے قول کو ترک کر کے حدیث پر عمل کیا، امام اعظم نے عقیقہ کو محض مباح فرمایا تھا مگر جب صحیح حدیث سے اس کا سنت ہونا ثابت ہوا

گیا تو فقہاء احناف نے حدیث پاک کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ حدیث نہ پہنچنے کا عذر اولاً تو بہت کم ہے اس کو اکثری سبب نہیں کہا جاسکتا، اور اگر کہیں ہے بھی تو صرف ان مسائل میں جن کا وقوع شاذ و نادر ہے۔

دوسرا سبب :- ترک حدیث کا دوسرا سبب بیان کرتے ہوئے شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ کسی امام کے پاس حدیث تو پہنچی مگر وہ حدیث ان کے نزدیک ثابت نہیں تھی، یعنی اس حدیث کی اسناد میں کوئی راوی ان امام کے نزدیک مجہول تھا یا متہم بالکذب تھا یا سنی الحفظ تھا۔ اس سبب کی مزید تفصیل بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ سبب بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔

تیسرا سبب :- امام نے اپنے اجتہاد سے کسی حدیث کو ضعیف سمجھا، اور دوسرے نے اس میں اس سے اختلاف کیا، اس سے قطع نظر کہ اس حدیث کا کوئی دوسرا بھی طریقہ روایت تھا، اب چاہے پہلے والا صواب پر ہو یا دوسرا والا، یا پھر دونوں صواب پر ہوں۔ اس کے بعد شیخ ابن تیمیہ نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ کسی حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں اختلاف کیوں ہوتا ہے۔

چوتھا سبب :- ترک حدیث کا چوتھا سبب یہ ہے کہ ایک امام کسی عادل اور حافظ کی روایت کردہ خبر واحد کے قبول کے لیے ایسی شرطوں کی رعایت کرتا ہو جن کی رعایت دوسرے امام کے نزدیک ضروری نہ ہو، مثلاً بعض ائمہ نے شرط لگائی کہ خبر واحد کو پہلے کتاب و سنت پر پیش کیا جائیگا، یا جیسے بعض نے یہ شرط لگائی کہ جب حدیث دیگر اصول کے مخالف ہو تو راوی کا فقیہ ہونا ضروری ہے، یا پھر جیسے بعض ائمہ کا یہ شرط لگانا کہ جب حدیث کسی ایسے معاملہ سے متعلق ہو جس میں عموم بلوی ہو تو حدیث کی شہرت اور ظہور ضروری ہے۔

ترک حدیث کا دوسرا، تیسرا اور چوتھا سبب اصولی طور پر ایک ہی قسم کے ہیں، لہذا میں ایک ساتھ ان پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک اہم بات یہ ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں محدثین نے احادیث کو جانچنے اور رجال حدیث کی جرح و تعدیل کے جو اصول و قوانین مقرر فرمائے ان کی روشنی میں بہت سی وہ احادیث جو ائمہ متقدمین کے نزدیک ثابت اور صحیح تھیں وہ متاخرین کے یہاں غیر ثابت اور ضعیف ہو گئیں، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ائمہ متقدمین کے پاس جو روایت ہوا کرتی تھی اس میں صحابی تک صرف ایک، دو یا تین واسطے ہوا کرتے تھے، صحابی کی عدالت اور ثقاہت شکوک و شبہات سے بالاتر ہے، اور آخری راوی سے خود وہ امام روایت سنا کرتا تھا لہذا اس راوی کی ثقاہت بھی اس امام کے نزدیک مسلم ہوا کرتی تھی اب صرف درمیان کے ایک یا زیادہ سے زیادہ دوراویوں کے بارے میں تحقیق درکار ہوتی تھی، اس کے برخلاف متاخر محدثین تک روایت آتے آتے اس کی سند میں چار، پانچ، چھ اور بسا اوقات آٹھ آٹھ راوی ہو جایا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ اتنے بہت سے راویوں کی تحقیق و تفتیش ایک مشکل مسئلہ تھا، اسی لیے بے شمار روایات متقدمین کے یہاں صحیح ہیں جب کہ متاخرین تک آتے آتے وہ روایات ضعیف یا ناقابل احتجاج ہو گئیں، اسی طرح متاخرین نے ارسال و انقطاع کی وجہ سے بے شمار احادیث رد کر دیں جب کہ متقدمین مر اسیل و منقطع کو عموماً حجت سمجھتے تھے، اس سلسلہ میں امام مالک اور امام محمد کی تصریحات موجود ہیں، اس وضاحت سے اس اعتراض کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ احناف نے فلاں فلاں ضعیف احادیث کو اختیار کیا ہے، جواب واضح ہے کہ یہ احادیث متاخرین کے نزدیک ضعیف ہیں لیکن جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ یا آپ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی نے اس حدیث پر مسئلہ کی بنیاد رکھی تھی تو یہ حدیث ان

کے نزدیک ثابت اور صحیح تھی۔ شیخ ابن تیمیہ کے بیان کردہ تیسرے سبب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی حدیث کی تصحیح یا تضعیف ایک اجتہادی امر ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک حدیث کسی امام کے نزدیک صحیح ہو اور وہی حدیث کسی دوسرے امام کے نزدیک ضعیف ہو، جب یہ ایک اجتہادی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے کے لیے حجت نہیں ہوگا، بخاری اور مسلم کے بے شمار رجال ایسے ہیں جن کی ثقاہت وعدالت پر دوسرے ائمہ نے کلام کیا ہے، مگر دوسرے ائمہ کا یہ کلام امام بخاری اور امام مسلم پر حجت نہیں ہے کیوں کہ ان دونوں جلیل القدر اماموں نے انہیں راویوں سے روایت لی ہے جو ان کے نزدیک ثقہ اور قابل اعتماد ہیں، اب وہ راوی اگر کسی دوسرے امام کے نزدیک غیر ثقہ ہیں تو ہوا کریں اس سے بخاری و مسلم پر کچھ فرق نہیں پڑیگا، دوسری بات یہ کہ اگر بخاری و مسلم نے کسی روایت سے استدلال کیا ہے یا اس کو اپنی صحیح میں درج کیا ہے تو یہ ان کے نزدیک اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، اب اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ اگر ہمارے ائمہ یعنی امام اعظم ابوحنیفہ، امام محمد یا امام ابو یوسف نے کسی روایت سے استدلال و تمسک کیا ہے تو اولاً تو وہ حدیث ان کے نزدیک صحیح اور قابل احتجاج ہوگی، کیوں کہ ان حضرات کا اس حدیث سے تمسک کرنا ہی ان کے نزدیک اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، دوسری بات یہ کہ اب بعد کے ائمہ کے اجتہاد کے مطابق خواہ وہ حدیث ضعیف یا ناقابل احتجاج ہی کیوں نہ ہو ان کا یہ اجتہاد امام اعظم یا امام محمد کے اجتہاد پر اثر انداز نہیں ہوگا، اور نہ ان متاخرین کا اجتہاد متقدمین پر حجت ہوگا۔

پانچواں سبب: شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ ترک حدیث کا پانچواں سبب یہ ہے کہ امام کو حدیث پہنچی ہو اور وہ ان کے نزدیک ثابت بھی ہو، مگر وہ اس کو بھول گئے ہوں۔ اس

کے بعد شیخ ابن تیمیہ نے حضرت عمر فاروق کے دو اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کے بھولنے کا ایک واقعہ مثلاً نقل کیا ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ سلف و خلف میں ترک حدیث کا یہ سبب بھی کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس پر عرض ہے کہ کسی موقع پر وقتی طور سے کسی بات کا ذہن سے نکل جانا کوئی بعید نہیں ہے، ویسے بھی خطا و نسیان انسان کا خاصہ ہے، ہاں البتہ یہ بات ضرور بعید از قیاس ہے کہ کوئی مجتہد اجتہاد کے وقت کوئی حدیث بھول جائے اور اس حدیث کے خلاف فتویٰ دیدے، عوام اس کے اس اجتہاد پر عمل کرنا شروع کر دیں اور خود وہ مجتہد بھی اسی رائے پر عمل کرے، اس کے باوجود ساری زندگی اس کو وہ حدیث یاد نہ آئے، عقل سلیم یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھول بھی ان مسائل میں ہو سکتی ہے جو شاذ و نادر واقع ہوں، لیکن وہ مسائل جو روزمرہ کے معمولات سے ہوں ان میں مجتہد کے نسیان کا دعویٰ کرنا نہ صرف یہ کہ بلا دلیل ہے بلکہ عقلاً بھی ناقابل قبول ہے۔

چھٹا سبب:- امام کو دلالت حدیث کی معرفت ہی نہ ہو سکے، یا تو اس لیے کہ جو لفظ حدیث میں وارد ہوا ہے وہ اس امام کے نزدیک غریب اور اجنبی ہے (اس کی کچھ مثالیں دینے کے بعد لکھتے ہیں) اور کبھی اس لیے کہ اس امام کی لغت و عرف میں اس لفظ کے جو معنی تھے وہ حضور اکرم کی لغت کے خلاف تھے امام نے اس کو اپنی لغت و عرف پر محمول کیا (اس کی ایک مثال دیکر آگے لکھتے ہیں) اور کبھی اس لیے کہ حدیث کا لفظ مشترک یا مجمل یا حقیقت و مجاز دونوں کا محتمل تھا، پس امام نے اس لفظ کو ایسے معنی پر محمول کر لیا جو اس کے ذہن کے قریب ترین تھا حالانکہ وہاں حدیث کے لفظ سے دوسرا معنی مراد تھا۔

الفاظ حدیث کے معانی اور مفہام کے تعین اور ان کی تشریح و تفسیر میں ائمہ

مجتہدین اور علما کے درمیان اختلاف رائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہاں البتہ اگر حیرت ہے تو اس بات پر کہ بقول شیخ ابن تیمیہ مجتہد کو دلالت حدیث کی معرفت ہی نہ ہو۔ میری حیرت کی وجہ یہ کہ لغت و عرف اور دلالات الفاظ کی معرفت مجتہد ہونے کے شرائط میں سب سے اہم شرط ہے، جو شخص لغت، کلام عرب اور دلالات الفاظ ہی سے واقف نہ ہو وہ مجتہد ہی کیونکر ہوگا؟

ساتواں سبب:- مجتہد یہ سمجھے کہ اس حدیث میں اس مسئلہ کی دلالت نہیں ہے، اس سبب اور اس سے پہلے والے سبب میں فرق یہ ہے کہ پہلے والے سبب میں وہ یہی نہیں جانتا کہ یہ لفظ اس مفہوم پر دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ لیکن اس ساتویں سبب میں دلالت لفظ کی جہت سے تو واقف ہے مگر اس دلالت کو وہ درست نہیں سمجھتا، کیوں کہ اس کے پاس جو اصول ہیں وہ اس دلالت کو رد کر رہے ہیں۔

آٹھواں سبب:- امام لفظ حدیث کی دلالت سے تو واقف ہو مگر اس کے پاس ایسی دلیل موجود ہو جو اس دلالت کے معارض ہو اور یہ ثابت کر رہی ہو کہ یہ دلالت مراد نہیں ہے۔ پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ یہ بھی بہت وسیع باب ہے اس لیے کہ اقوال و الفاظ کی دلائلوں کا تعارض اور ان میں بعض کو بعض پر ترجیح یہ ایک بحرنا پیدا کنار ہے۔

نواں سبب:- حدیث ترک کرنے کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ امام یہ اعتقاد کرے کہ حدیث کے معارض ایسی دلیل موجود ہے جو اس حدیث کے ضعف یا نسخ اور اگر قابل تاویل ہو تو تاویل پر دلالت کر رہی ہے، لیکن وہ دلیل ایسی ہو جو بالاتفاق اس حدیث کا معارض بننے کی صلاحیت رکھتی ہو مثلاً کوئی آیت ہو یا حدیث ہو یا پھر اجماع ہو۔

دسواں سبب:- کسی امام کے حدیث ترک کرنے کا دسواں اور آخری سبب یہ ہے

کہ حدیث کے معارض کوئی ایسی چیز ہو جو اس حدیث کے ضعیف ہونے یا منسوخ ہونے یا موول ہونے پر دلالت کر رہی ہو، لیکن وہ چیز یا اس کی جنس دوسرے امام کے نزدیک معارض نہ ہو یا پھر درحقیقت وہ معارض رائج نہ ہو۔

ترک حدیث کے یہ دس اسباب بیان کرنے کے بعد شیخ ابن تیمیہ نے جو حقیقت پسندانہ، اور بصیرت افروز سطور لکھی ہیں وہ ان تمام لوگوں کو چشم عبرت سے بغور پڑھنا چاہئے جو اٹھتے بیٹھتے اپنی نادانی اور کم علمی کے باعث ائمہ مجتہدین پر ترک حدیث اور مخالفت سنت کا الزام لگاتے ہیں، شیخ لکھتے ہیں کہ یہ دس اسباب تو بالکل ظاہر ہیں، اور ممکن ہے کہ بہت سی احادیث کو ترک کرنے میں عالم (مجتہد) کے پاس کوئی ایسی دلیل اور حجت ہو جس پر ہم مطلع نہ ہو سکے ہوں، اس لیے کہ علم کے مدارک نہایت وسیع ہیں، اور علما کے باطن میں جو کچھ ہے ہم اس سب پر مطلع نہیں ہیں، اور عالم (مجتہد) کبھی اپنی دلیل ظاہر کرتا ہے، کبھی ظاہر نہیں کرتا، اور اگر وہ اپنی دلیل ظاہر کرتا ہے تو وہ دلیل کبھی ہم تک پہنچتی ہے اور کبھی نہیں پہنچتی، اور اگر اس کی دلیل ہم تک پہنچ جائے تو کبھی ہم اس کے موضع احتجاج اور وجہ استدلال کو جان لیتے ہیں، کبھی نہیں جان پاتے۔ (جام نور، اپریل)

باب مرویات امام زفر

حدیث امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا مذهب ہوا کرتی تھی

سیر اعلام النبلاء میں ہے "قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: لَقِيتُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقُلْتُ لَهُ: صِرْتُمْ حَدِيثًا فِي النَّاسِ وَضَحْكَةً، قَالَ: وَمَا ذَاكَ قُلْتُ: تَقُولُونَ: ادْرءِ وَالْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ، ثُمَّ جِئْتُمْ إِلَى أَكْظَمِ الْحُدُودِ، فَقُلْتُمْ: تُقَامُ بِالشُّبُهَاتِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ فَقُلْتُمْ: يُقْتَلُ بِهِ يَعْنِي بِالذِّمِّيِّ، قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُكَ السَّاعَةَ أَنِّي قَدْ رَجَعْتُ عَنْهُ" ترجمہ: عبد الرحمن بن مہدی نے کہا: ہم سے حدیث بیان کی عبد الواحد بن زیاد نے کہتے ہیں: میری امام زفر سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا: تم لوگوں میں گفتگو کا موضوع اور مذاق بن کے رہ گئے ہو، امام زفر نے اس کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا: تم لوگ کہتے ہو کہ شبہات کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے لیکن پھر تم نے خود ہی ایک بڑی حد کو شبہ کی وجہ سے نافذ کر دیا، امام زفر نے فرمایا وہ کون سی حد ہے؟ میں نے کہا: رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: کافر کے قصاص میں مسلمان کو قتل نہ کیا جائے جبکہ آپ کہتے ہیں کہ کافر یعنی ذمی کے قصاص میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا، امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے فرمایا: میں تمہیں ابھی گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے مسئلے سے رجوع کیا "قُلْتُ: هَكَذَا يَكُونُ الْعَالِمُ وَقَافًا مَعَ النَّصِّ" ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ عالم کی یہی شان ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے دلیل ملنے کے بعد آگے کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔

(سیر اعلام النبلاء، جلد 7، صفحہ 145، دار الحدیث، القاہرہ)

یہ واقعہ الفقہ والمتفقہ میں بھی موجود ہے جسے خطیب بغدادی (رحمۃ اللہ تعالیٰ

علیہ) نے بیان کیا چنانچہ آپ اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں "قُلْتُ: كَانَ

زُفَرُ بْنُ الْهَذِيلِ مِنْ أَفْضَلِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَمَّا حَاجَّهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ فِي

مُناظَرَتِهِ وَقَفَّ فِي عَصْدِهِ بِحُجَّتِهِ أَشْهَدُهُ عَلَى رَجْعَتِهِ حَنِيفَةً مِنْ مُدَّعٍ يَدَّعِي ثِبَاتَهُ

عَلَى قَوْلِهِ الَّذِي سَبَقَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ زَلَّةٌ وَخَطَاٌ وَكَذَلِكَ يَحِبُّ عَلَى كُلِّ

مَنْ احْتَجَّ عَلَيْهِ بِالْحَقِّ أَنْ يَقْبَلَهُ وَيُسَلِّمَ لَهُ وَلَا يَحْمِلُهُ اللَّجَاجُ وَالْجَدَلُ عَلَى

التَّقَحُّمِ فِي الْبَاطِلِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ

فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ ترجمہ: میں کہتا ہوں: زفر بن ہذیل ابوحنیفہ کے شاگردوں میں بڑی

فضیلت کے حامل ہیں، جس وقت عبدالواحد نے انہیں دلیل دی اور ان کے قول کی کمزوری

بیان کر دی تو فوراً عبدالواحد کو اپنے موقف سے رجوع پر گواہ بنالیا۔ اس خوف سے کہ کہیں

ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں جو اپنے قول کی غلطی ظاہر ہونے کے بعد بھی اس پر اڑے

رہتے ہیں۔ اپنے موقف کے خلاف صحیح دلیل ملنے پر ضروری ہے کہ ہر ایک اپنے موقف

سے رجوع کرے اور اس کی دلیل کو تسلیم کرے اور حق واضح ہونے کے باوجود باطل معاملہ

میں اٹکل پچو و جدل سے باز رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (ترجمہ کنز الایمان) بلکہ ہم حق

کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجہ نکال دیتا ہے تو جی بھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے۔

(الفقہ والمتفقہ، باب ادب الحدال، فصل: السکوت، جلد 2، صفحہ 112، دار ابن جوزی، السعودیہ)

نوٹ: فقہ حنفی میں مفتی بہ قول یہی ہے کہ ذمی کے بدلے مسلمان کو قتل کیا جائے

گا کیونکہ قتل عمد میں قصاص اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب ایسے کا قتل کیا جائے جس کے

خون کی محافظت ہمیشہ کے لئے ہو جیسے مسلم یا ذمی کہ اسلام نے ان کی محافظت کا حکم دیا ہے

۔ مفتی امجد علی اعظمی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) شامی، درمختار، بحر الرائق اور عالمگیری کے حوالہ سے لکھتے ہیں ”آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اور غلام کے بدلے میں بھی قتل کیا جائے گا اور غلام کو غلام کے بدلے میں اور آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ مرد کو عورت کے بدلے میں اور عورت کو مرد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ مسلم کو ذمی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ حربی اور مستامن کے بدلے میں نہ مسلم سے قصاص لیا جائے گا نہ ذمی سے، اسی طرح مستامن سے مستامن کے مقابل میں قصاص نہیں۔ ذمی نے ذمی کو قتل کیا، قصاص لیا جائے گا اور قتل کے بعد قاتل مسلمان ہو گیا جب بھی قصاص ہے۔“

(بہار شریعت، جنایات کا بیان، جلد 3، حصہ 18، صفحہ 781، مکتبۃ المدینۃ، کراچی)

❁ فصل اول: امام زفر جرح، تعدیل کے میدان میں ❁

امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی توثیق زیادہ تر محدثین سے منقول ہے لیکن بعض نے ان پر جرح بھی کی ہے اور اس میں غلو سے کام لیا ہے اور ان پر نقد بھی کیا ہے چنانچہ ابن سعد نے طبقات میں کہا ”لم یکن فی الحدیث بشیء“ ترجمہ: زفر علم حدیث کے میدان کچھ نہ تھے۔

وہ حدیث میں کچھ بھی نہ تھے، یہ راوی کے ضعف کا بیان ہے۔ اور ابوالفتح الازدی نے کہا ہے ”زفر غیر مرضی المذہب والرائی“ ترجمہ: زفر مذہب اور رائے کے معاملہ میں ناپسندیدہ ہیں۔

(لسان المیزان، جلد 3، صفحہ 502)

ابن سعد کی امام زفر پر بے بنیاد جرح کا جواب

جہاں تک ابن سعد کی بات ہے تو جرح و تعدیل میں ان کا وہ مقام و مرتبہ نہیں کہ ان کے بیان پر بالکل اعتبار و وثوق کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ

ابن سعد اکثر و بیشتر مقامات پر اپنے استاد واقدی کی تقلید کرتے ہیں اور ان کا نام لئے بغیر ان کا قول ذکر کر دیتے ہیں اور واقدی کو اہل مدینہ کی طرح اہل کوفہ سے انحراف تھا۔ لہذا اہل کوفہ کا ذکر خیر ان کے یہاں شاذ و نادر ہی ہوتا۔ دیکھئے! حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں ”مَحَارِبُ بَنِ دَثَارٍ أَحَدِ الْأَئِمَّةِ الْأَثْبَاتِ تَابِعِي جَلِيلٍ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَبْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ وَالْعَجَلِيُّ وَآخَرُونَ وَقَالَ بَنُ سَعْدٍ لَا يَحْتَجُونَ بِهِ قُلْتُ بَلْ أَحْتَجُ بِهِ الْأَئِمَّةُ كُلُّهُمْ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ مَأْمُونٌ وَلَكِنْ بَنُ سَعْدٍ يُقَلِّدُ الْوَاقِدِيَّ وَالْوَاقِدِيَّ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي الانْحِرَافِ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَعْلَمَ ذَلِكَ تَرَشُّدَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ“ ترجمہ: محارب بن دثار (معتبر ائمہ میں سے ہیں جلیل القدر تابعی ہیں، امام احمد، ابن معین، ابو حاتم، نسائی، عجل، اور دیگر ائمہ نے ان کی توثیق کی ہے جبکہ ابن سعد نے کہا ہے کہ محدثین ان کو لائق احتجاج نہیں سمجھتے، میں (ابن حجر) کہتا ہوں: ان سے تمام ائمہ نے احتجاج کیا ہے اور ابو زرعة نے ان کو مامون کہا ہے۔ لیکن ابن سعد واقدی کی تقلید کرتے ہیں اور واقدی کے اندر دیگر اہل مدینہ کی طرح اہل عراق سے انحراف ہے۔

(فتح الباری لابن حجر، المقدمة، جلد 1، صفحہ 443، دار المعرفۃ، بیروت)

حافظ ذہبی کا امام زفر کے بارے فیصلہ

علاوہ ازیں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں فرمایا ”قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: مَاتَ زُفَرٌ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْحَدِيثِ بِشَيْءٍ عَرَفْتُ: قَدْ حَكَمَ لَهُ إِمَامُ الصَّنْعَةِ بِأَنَّهُ ثَقَّةٌ، مَأْمُونٌ“ ابن سعد نے کہا کہ زفر کا انتقال سنہ 158 ہجری میں ہوا اور وہ حدیث میں کچھ نہیں تھے۔ میں (ذہبی) کہتا ہوں کہ اس فن کے امام نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ ثقہ، مامون ہیں۔

(سیر اعلام النبلاء، جلد 7، صفحہ 145، دار الحديث - القاهرة)

حافظ ذہبی میزان الاعتدال 2/71 میں کہتے ہیں ”زفر بن الہذیل العنبری

احد الفقهاء والعباد صدوق وثقه ابن معین وغیر واحد“ زفر بن ہذیل ان چند فقہاء اور عابدوں میں سے ایک تھے جن کی ابن معین اور دوسروں نے توثیق کی ہے۔

حافظ ابن عبد البر کا امام زفر کے بارے فیصلہ

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) انتہائی پرہیزگار، بہترین قیاس کرنے والے، کم لکھنے

والے تھے اور جو لکھتے تھے اسے یاد رکھتے تھے۔ حافظ ابن عبد البر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کہتے

ہیں ”کان زفر ذاعقل و دین و فہم و ورع، و کان ثقة فی الحدیث“ ترجمہ: زفر

صاحب عقل و فہم اور متقی و پرہیزگار تھے، اور حدیث میں ثقہ تھے۔ (الجواهر المضية 208)

(لمحات النظر، صفحہ 9، المكتبة الازهرية، للتراث، بیروت)

حافظ ابن حجر کا امام زفر کے بارے فیصلہ

بعینہ یہی لفظ حافظ ابن حجر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے لسان المیزان میں بھی ادا

کئے ہیں۔ صرف اس فرق کے ساتھ کہ وثقه ابن معین وغیر واحد کی جگہ وثقه

غیر واحد و ابن معین کا لفظ ہے۔ (لسان المیزان 3/502)

علم حدیث کے امام ”یحییٰ بن معین“ کا فیصلہ

حافظ ذہبی نے کا بیان ہے کہ ابن سعد کی امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) پر یہ تنقید

اور جرح قطعاً قابل اعتبار نہیں ہے جب کہ اس فن کے امام یحییٰ بن معین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے ان کو ثقہ اور مامون قرار دے دیا ہے۔ سیر اعلام النبلاء میں ہے ”وذكره يحيى

بن معين، فقال ثقة مأمون“ ترجمہ: یحییٰ بن معین نے ان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ زفر ثقہ

اور قابل اطمینان ہیں۔ (سیر اعلام النبلاء، جلد 7، صفحہ 144، دار الحديث - القاهرة)

ابن سعد کی واقدی سے مرویات اور محدثین کا فیصلہ

المختصر یہ کہ ابن سعد کی واقدی سے جو اس طرح کی مرویات ہیں وہ لائق اعتماد نہیں

بخاری کی شرح فتح الباری میں ہے ”ورواية ابن سعد له عن الواقدي، وهو لا يعتمد“ ترجمہ: ابن سعد کی (اپنے استاد) واقدی سے بیان کردہ روایت پر اعتماد نہ کیا جائے۔

(فتح الباری لابن رجب، جلد 8، صفحہ 245، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية)

ازدی کی زفر پر کی گئی ناقابل التفات جرح کا جواب

اور جہاں تک ابوالفتح لازدی کا معاملہ ہے تو یہ بات واضح رہے کہ بعض دیگر محدثین نے خود ان پر جرح کیا ہے اور ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں متعدد مواقع پر ازدی کے رواۃ پر حکم لگانے پر تنقید کرتے ہیں اور سخت انداز و لہجہ میں نقد کرتے ہیں۔ چند مثالیں دیکھئے ”فی ترجمة أبان بن إسحاق المدني: قال ابن معين وغيره: ليس به بأس، وقال أبو الفتح / الأزدي: متروك. قلت: لا يترك، فقد وثقه أحمد والعجلي، وأبو الفتح يسرف في الجرح، وله مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين، جمع فإوعى، وجرح خلقاً بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم، وهو المتكلم فيه، وسأذكره في المحمدين“ ترجمہ: ابان بن اسحاق مدنی کو ابوالفتح لازدی نے متروک کہا ہے۔ میں ذہبی کہتا ہوں: وہ قابل ترک نہیں، ان کو امام احمد، عجل نے ثقہ قرار دیا ہے اور ابوالفتح جرح میں زیادتی کرتے ہیں اور ان کی مجروحین کے تعلق سے ایک بڑی تصنیف ہے اس میں انہوں نے مجروح راویوں کو جمع کیا ہے اور بہت سے ایسے راویوں پر جرح کی ہے جن پر ازدی سے پہلے کسی نے کلام نہیں کیا، جب کہ خود ازدی متکلم فیہ ہیں جیسا کہ میں محمد بن ذکری

کروں گا۔ (میزان الاعتدال، حرف الف، جلد 1، صفحہ 5، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان)

میزان الاعتدال میں ہے ”قلت: لا يلتفت إلى قول الأزدي، فإن في لسانه في الجرح رهقاً“ ازدي کے قول کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی کیونکہ جرح کے باب میں ان کی زبان سے خلاف واقعہ بات نکل جاتی ہے۔

(میزان الاعتدال، جلد 1، صفحہ 61، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان)

امام زفر پر ضعف کا حکم لگانے والا، کاش اپنا ضعف جان لیتا

سیر اعلام النبلاء میں ہے ”وقد ضعفه الأزدي: وهذه مجازفة، لیت الأزدي عرف ضعف نفسه“ ترجمہ: (حارث بن محمد بن ابی اسامہ کے ترجمہ میں حافظ ذہبی نے کہا) ان کو ازدي نے ضعیف قرار دیا ہے اور یہ اٹکل سے لگایا گیا حکم ہے۔ کاش! ازدي اپنے ضعف کو جان لیتے۔ (سیر اعلام النبلاء، جلد 13، صفحہ 389، مؤسسة الرسالة، بیروت)

فصل دوم: امام زفر کی توثیق کے متعلق اقوال

یحییٰ بن معین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

جب کہ اس کے مقابلہ میں جنہوں نے امام زفر کو ثقہ قرار دیا ہے وہ یحییٰ بن معین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہیں جو فن جرح و تعدیل کے امام ہیں۔ چنانچہ ابن معین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں ”زفر صاحب الرائي ثقة مأمون“ ترجمہ: زفر صاحب رائی، ثقہ اور مأمون ہیں۔ (تاریخ ابن معین، رواية الدوري، جلد 3، صفحہ 503، مكة المكرمة)

ابو نعیم فضیل بن دکین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

ابو نعیم فضیل بن دکین کہتے ہیں: ”قال قرء على العباس بن محمد الدوري قال سمعت ابا نعیم الفضل بن دکین و ذکر زفر فقال: كان ثقة مأموناً“

”ترجمہ: زفر ثقہ اور اعتماد کے لائق ہیں۔“

(ابن ابی حاتم، جلد 3، صفحہ 609، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

لمحات النظر میں ہے ”قال یحیی بن معین: سمعت ابانعمیم یقول: زفر بن ہذیل من خیار الناس وأرائی أبو نعیم منزل زفر بالكوفة فی جبانة کثدة فی وسط الجبان وجعل ابو نعیم یثنی علیہ“ ترجمہ: یحیی بن معین کہتے ہیں کہ میں نے ابو نعیم کو کہتے ہوئے سنا کہ زفر بن ہذیل (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بہترین لوگوں میں سے ہیں۔“

(لمحات النظر، صفحہ 9، المكتبة الازهریة، للتراث، بیروت)

احناف کے مخالفین کا امام زفر کے بارے میں موقف

حافظ ابن حبان کا احناف اور بطور خاص امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے خلاف تعنت مشہور ہے۔ اس کے باوجود وہ امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے بارے میں کہتے ہیں: ”زفر بن الہذیل بن قیس من بلعبر کنتہ أبو الہذیل الکوفی وکان من أصحاب أبی حنیفۃ یروی عن یحیی بن سعید الأنصاری روى عنه شداد بن حکیم البلیخی وأهل الکوفة وکان زفر متقنا حافظا قلیل الخطأ لم یسلك مسلك صاحبه فی قلة التیقظ فی الروایات وکان أقیس أصحابه وأكثرهم رجوعا إلی الحق إذا لآخ له ومات بالبصرة“ ترجمہ: زفر بن ہذیل کوئی جو امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے ہیں، انہوں نے یحیی بن سعید الانصاری سے روایت کی ہیں اور ان سے شداد بن حکیم البلیخی اور دیگر اہل کوفہ نے۔ زفر حدیث میں متقن، حافظ اور قلیل الخطاء اور ابو حنیفہ کی طرح حدیثوں کے معاملے میں بے پرواہی برتنے والے نہ تھے۔ ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ بہترین قیاس کرنے والے تھے، وضوح حق کے بعد سب

سے جلد رجوع الی الحق کرنے والے تھے۔ ان کی وفات بصرہ میں ہوئی تھی۔

(کتاب الثقات، جلد 6، 339، دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن الہند)

نوٹ: کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ امام اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) حدیثوں کے معاملے

میں بے پرواہی برتتے تھے بلکہ ابن حبان صاحب امام اعظم کے سخت مخالف تھے، ورنہ علم حدیث میں جو امام ابو حنیفہ کا مقام ہے، ابن حبان اس سے کوسوں دور ہیں۔

امام نسائی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

امام نسائی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے بھی ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں ”زفر بن

الہذیل ثقہ“ ترجمہ: زفر بن ہذیل ثقہ ہیں۔

(الرسالة المتصلة بالضعفاء والمتروکین للنسائی، صفحہ 266)

ابو عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

الجواهر میں ہے ”قال أبو عمر كان زفر ذا عقل ودين وفهم وورع“

وكان ثقة في الحديث“ ترجمہ: ابو عمر نے کہا: امام زفر صاحب عقل والے،

سجھدار، دیندار اور زبردست قسم کے پرہیزگار تھے اور حدیث میں ثقہ تھے۔

(الجواهر المضية في طبقات الحنفية، جلد 1، صفحہ 244، میر محمد کتب خانہ، کراچی)

امام نووی شافعی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

مشہور شافعی فقیہ اور محدث حافظ امام نووی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تہذیب

الاسماء واللغات 1/197 میں لکھتے ہیں: ”كان جامعاً بين العلم والعبادة وكان

صاحب حديث“ ترجمہ: علم و عمل امام زفر میں جمع تھے اور وہ محدث تھے۔

حافظ زہبی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

حافظ زہبی کہتے ہیں: قلت: هو من بحور الفقه، وأذكاء الوقت تفقه

بِأَبْنِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ أَكْبَرُ تَلَامِيذَتِهِ، وَكَانَ مِمَّنْ جَمَعَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَكَانَ يَدْرِي الْحَدِيثَ وَيُثِقُّهُ“ ترجمہ: میں کہتا ہوں: زفر فقہ کے سمندر اور اپنے وقت کے ذہین ترین تھے۔ فقہ میں امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے اعلیٰ درجہ کے تلامذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ علم و عمل کے جامع تھے۔ اور وہ حدیث کو نہ صرف جانتے تھے بلکہ اس میں پختگی اور اتقان انہیں حاصل تھا۔ (سیر اعلام النبلاء، جلد 7، صفحہ 144، دار الحديث، القاهرة)

امام دارقطنی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

موسوعہ اقوال ابی الحسن میں ہے ”قال البرقاني: سألت الدارقطني عن زفر بن الهذيل، صاحب أبي حنيفة، فقال: ثقة“ ترجمہ: برقانی کہتے ہیں کہ میں نے دارقطنی سے امام اعظم کے شاگرد زفر بن ہذیل کے بارے پوچھا کہ وہ کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ثقہ تھے۔ (موسوعہ اقوال ابی الحسن، جلد 1، صفحہ 264)

واہ! کیا بات ہے امام زفر کی

حافظ ابو نعیم الاصبہانی کہتے ہیں ”كنت اعرض الحديث على زفر، فيقول: هذا ناسخ، هذا منسوخ، هذا يوحذ به، هذا يرفض“ ترجمہ: میں امام زفر پر احادیث پیش کیا کرتا تھا اور وہ فرماتے تھے: یہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے۔ یہ قابل عمل ہے اور یہ متروک ہے۔ (سیر اعلام النبلاء، جلد 7، صفحہ 145، دار الحديث، القاهرة)

اسی میں چند الفاظ دیگر سے ہے ”وقال أبو نعیم: كُنْتُ أُمِرُّ عَلَى زُفَرٍ، فَيَقُولُ: تَعَالَى حَتَّى أَغْرِبَ لَكَ مَا سَمِعْتُ“ ترجمہ: ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں زفر کے پاس آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے ابو نعیم! ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو حدیثیں تمہارا پاس ہیں ان کی فن حدیث کے لحاظ سے کیا حیثیت ہے؟ یعنی صحیح ہیں یا ضعیف۔

(سیر اعلام النبلاء، جلد 7، صفحہ 144، دار الحديث، القاهرة)

امام زفر سے مرویات کی تعداد کی کمی کی وجہ

سیر اعلام النبلاء میں ہے ”حَدَّثَ عَنْهُ: حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ،

وَأَكْثَمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالِدُ يَحْيَى ابْنِ أَكْثَمٍ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، وَأَبُو نَعِيمٍ

الْمَلَاثِيُّ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ التِّيمِيُّ، وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ، وَمَالِكُ بْنُ

فَدْيِكٍ، وَعَامَّتُهُمْ مِنْ رُفَقَائِهِ وَأَقْرَانِهِ، لِأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَوَانِ الرَّوَايَةِ۔“ ترجمہ: حسان بن

ابراہیم کرمانی، اکثم بن محمد، والد یحییٰ بن اکثم، عبدالواحد بن زیاد، ابو نعیم ملائی، نعمان بن

عبدالسلام تیمی، حکم بن ایوب، مالک بن فدیك اور ان کے زمانے کے رفقاء نے ان سے

روایت کی۔ ان سے روایت کرنے والوں کی تعداد کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ مروی عنہ بنے پہلے

ی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ (سیر اعلام النبلاء، جلد 7، صفحہ 145، دار الحديث، القاهرة)

اب یہاں امام زفر سے جو احادیث مروی ہیں انہیں نقل کیا جاتا ہے۔

فصل سوم: امام زفر سے مروی احادیث

❁ کتاب الایمان ❁

☆☆☆ باب الایمان بالقدر ☆☆☆

القضاء والقدر للبیہقی میں ہے ”حَدَّثَنَا زُفَرُ بْنُ الْهَدَيْلِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ مَدْخَلَهَا وَمَخْرَجَهَا وَمَا هِيَ إِلَّا قِيَّةٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: فَيَمُ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: اْعْمَلُوا فِكُلُّ مُيَسَّرٍ، مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يُيَسَّرُهُ لِعَمَلِ أَهْلِهَا، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يُيَسَّرُهُ لِعَمَلِ أَهْلِهَا“ ترجمہ: ہم سے حدیث بیان کی زفر بن ہذیل نے وہ ابو حنیفہ سے، یہ عبد العزیز بن رفیع سے یہ مصعب بن سعد سے یہ اپنے باپ سے اور یہ رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے راوی کہ فرمایا نبی مکرم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے کہ کوئی جان ایسی نہیں کہ جس کے جنتی یا جہنمی ہونے کے بارے اللہ (عزوجل) نے لکھ نہ دیا ہو اور جو لکھا وہی اسے مل کر رہے گا۔ ایک انصاری نے عرض کی: یا رسول اللہ! پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرمایا: عمل کرو، ہر ایک کے لئے (اس کے لکھے ہوئے کے مطابق) آسانی مہیا کر دی جاتی ہے۔ جسے جنتی لکھ دیا گیا تو اس کے لئے جنتیوں والے اعمال کرنے کے ذرائع بھی بنا دیئے اور جس کا جہنمی ہونا لکھ دیا گیا اس کے لئے جہنمی ہونے والے اعمال کے ذرائع آسان کر دیئے۔

مسند ابی حنیفہ روایت ابی نعیم میں ہے "عَنْ زُفَرِ بْنِ الْهَدَيْلِ، عَنْ أَبِي

حَنِيفَةَ، ح وَثْنَا عَبْدُ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ

الْمِقْدَامِ، عَنْ دَاوُدَ الطَّنَائِي، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، ح وَثْنَا ابْنُ الْمُقَرِّ، ثَنَا

أَبُو عَرُوبَةَ، وَأَبُو مَعْشَرٍ قَالَا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ

أَبِي حَنِيفَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْقَاضِي عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ

حَاتِمٍ، عَنْ السَّرِيِّ بْنِ نُوحٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ نَصْرِ، ثَنَا بَشَّارُ بْنُ قِرَاطٍ، عَنْ أَبِي

حَنِيفَةَ، ح وَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقَرِّ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْجَنْدِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ

الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقَرِّ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، كُتِبَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ،

عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعْمَرٍ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ فَقُلْتُ

لِصَاحِبِي: انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ، فَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَا مُتَقَلِّبٌ فِي

هَذِهِ الْأَرْضَيْنِ، وَنَلْقَى قَوْمًا يَقُولُونَ: لَا قَدَرَ، فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا فَقَالَ: آتِهِمْ

فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مِنْهُمْ بَرِيءٌ، وَإِنَّهُمْ مِنِّي بَرَاءٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَوْ

أَجِدُ أَعْوَانًا لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَابٌّ حَسَنُ الْوَجْهِ، طَيِّبُ الرَّيْحِ،

حَسَنُ الثِّيَابِ، حَسَنُ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ وَرَدَدَنَا، ثُمَّ قَالَ: أَذْنُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَنَا حَتَّى

الْتَصَقَ رُكْبَتُهُ بِرُكْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ

بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ مِنَ اللَّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجَبْنَا

مِنْ قَوْلِهِ: صَدَقْتَ مَعَ تَوْفِيرِهِ إِيَّاهُ كَأَنَّهُ يَعْلَمُ، ثُمَّ قَالَ: مَا شَرَايِعُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: إِقَامُ

الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحُجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَالْإِغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَ: صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا مِنْ قَوْلِهِ: صَدَقْتَ، قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ: صَدَقْتَ، ثُمَّ قَامَ فَانْطَلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيَّ بِالرَّجُلِ، قَالَ: فَطَلَبْنَاهُ وَهُوَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَكَأَنَّمَا التَّقَمَّتْهُ الْأَرْضُ، فَمَا وَجَدْنَاهُ، وَلَا رَأَيْنَا شَيْئًا، فَأَخْبَرْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ، مَا جَاءَنِي فِي صُورَةٍ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُ فِيهَا، إِلَّا الْيَوْمَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ "هَذَا سِيَاقُ زُفَرٍ، وَالْبَاقُونَ نَحْوُهُ" یعنی یحیی بن معمر کہتے ہیں: میں مسجد میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عبد اللہ ابن عمر تشریف فرما ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا: آؤ میرے ساتھ، عبد اللہ ابن عمر کے پاس چلیں، ہم گئے اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے عرض کی: اے ابو عبد الرحمن! میں ان علاقوں میں آتا جاتا رہتا ہوں، میں ان علاقوں میں ایک ایسی قوم سے ملا ہوں جو تقدیر کا انکار کرتی ہے۔ آپ یہ بات سن کر سخت غضبناک ہوئے اور فرمایا: تو ان کے پاس جا اور انہیں میرا پیغام دے کہ عبد اللہ ابن عمر ان سے بری ہے اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ اور یہ تین مرتبہ فرمایا: (یعنی قطع تعلقی کا اعلان کر دیا۔) اگر میرے پاس جنگجو ہوتے تو میں ان کے خلاف جنگ کرتا۔ پھر وہ ہمیں یہ حدیث سنانے لگے کہ: ایک دن ہم نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک خوبصورت نوجوان ہمارے سامنے نمودار ہوئے جو بہت اچھی خوشبو والے، بہترین لباس زیب تن کئے ہوئے اور اچھی ہیئت والے تھے۔ انہوں نے آکر عرض کی: السَّلامُ عَلَیْكَ یَا نَبِیُّ اللَّهِ! رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے اور ہم نے ان

کے سلام کا جواب دیا۔ پھر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ! کیا میں آپ کے قریب آ سکتا ہوں؟ نبی مکرم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے انہیں اپنے قرب میں آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ (وہ اتنے قرب اقدس میں آئے) یہاں تک کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں شریف سے مس کر دیئے۔ اور عرض کیا: مجھے ایمان کے متعلق بتائیے، نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا ”الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ“ اللہ اور اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور اچھی بُری تقدیر کو مانو، یہ سن کر اس سائل نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، ہمیں اس کی اس بات سے بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی تصدیق، آپ کی تعظیم و توقیر کا لحاظ کرتے ہوئے اس انداز سے کی کہ گویا انہیں بھی معلوم تھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟

پھر اس نے پوچھا: یا رسول اللہ! اسلام کے قلعے کیا ہیں؟ آپ نے جواب فرمایا: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، کعبہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور جنابت سے غسل کرنا۔ اس نے کہا: آپ نے سچ کہا۔ ہمیں اس کے قول ”صَدَقْتَ“ سے تعجب ہوا۔ پھر اس نے عرض کیا: مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ فرمایا: اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا اُسے دیکھ رہے ہو اگر یہ نہ ہو سکے تو خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا: قیامت کی خبر دیجئے، فرمایا: جس سے پوچھ رہے ہو وہ قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ خبردار نہیں۔ اس نے پھر آپ کی تصدیق کی۔ پھر وہ سائل کھڑا ہوا اور چل دیا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: اے واپس بلاؤ۔ ابن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے ہی تھے کہ بعد میں تلاش کے باوجود نہ ملے، ایسے غائب ہوئے جیسے

زمین نے نکل لیا ہو۔ حضور نے فرمایا: یہ حضرت جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ جبریل جب بھی جس شکل میں بھی میرے پاس آتے، میں نے انہیں پہچان لیا مگر آج جس صورت میں آئے انہیں نہ پہچان سکا۔ حدیث کا یہ سیاق امام زفر سے ہے۔ باقی بھی اس طرح کے ہیں۔“

مسند ابی حنیفہ روایت ابی نعیم، جلد 1، صفحہ 3-152، مکتبہ البکویہ، الرياض

مسند ابی حنیفہ میں ہے ”ثَنَا زُفَرُ بْنُ الْهَدَّادِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي

الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَنْ دِينِنَا كَأَنَّا

وُلِدْنَا لَهُ، أَوْ نَعْمَلُ بِشَيْءٍ قَدْ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، وَجَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ، أَمْ لَشَيْءٍ

نَسْتَقْبِلُ؟ قَالَ: بَلْ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، وَجَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ، قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟

قَالَ: اْعْمَلْ؛ فَكُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ﴾ إِلَى

آخِرِ الْآيَتَيْنِ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، نَحْوَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، قَالَا: ثَنَا عَمْرُو، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ

أَبِي حَنِيفَةَ، نَحْوَهُ ح وَثَنَا الْقَاضِي أَبُو أَحْمَدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رُسْتَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا زُفَرٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ“ ترجمہ ہم

نے حدیث سنی زفر بن ہذیل سے زفر نے ابو حنیفہ سے انہوں نے ابو زبیر سے اور ابو زبیر نے

جابر سے کہ سراقہ بن مالک نے عرض کی: یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہمیں دین

کا یہ مسئلہ سمجھائیں کہ ہم اسی کے لئے ہی پیدا ہوئے ہیں، یا ہم وہی کرتے ہیں جو تقدیر میں

ہے اور قلم سے لکھا جا چکا ہے یا کسی اور چیز کے لئے جس کا ہم آئندہ سامنا کریں گے؟ تو

رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: نہیں! بلکہ ہم تقدیر اور قلم کے لکھے ہوئے

کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس نے عرض کی: پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ (صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: تم عمل کرتے جاؤ، ہر ایک جس کے لئے پیدا ہوا ہے اس کے لئے اس جیسے عمل کرنے آسان کر دیئے جاتے ہیں پھر قرآن مجید کی یہ پڑھی ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ (ترجمہ کنز الایمان) تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھی کو سچ مانا۔

(مسند ابی حنیفہ روایۃ ابی نعیم، جلد 1، صفحہ 30، مکتبۃ الکوثر، الریاض)

☆☆☆ باب رؤیۃ اللہ ثابت ☆☆☆

رؤیۃ اللہ للدارقطنی میں ہے ”عَنْ زُفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَرُونَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ وَقَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ ترجمہ: زفریہ روایت اسماعیل بن ابی خالد سے، اسماعیل، قیس سے اور قیس، جریر سے روایت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ آپ نے چودھویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا: بے شک تم جس طرح چاند کو دیکھتے ہوئے چندھیانی محسوس نہیں کرتے اسی طرح عنقریب تم اپنے رب (عز وجل) کو دیکھو گے۔ (یعنی جس طرح چودھویں رات کا چاند تسلی و آسانی سے صاف و شفاف طور پر نظر آتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان اللہ (عز وجل) کو دیکھے گا۔ چندھیانے کے معنی کو یوں سمجھیں کہ جیسے رات کے وقت کسی گاڑی کی لائٹ کی طرف دیکھیں تو تیز لائٹ کی وجہ سے آنکھیں کچھ بند کچھ کھلی اور کبھی ساری بند کرنی پڑتی ہیں اس کو چندھیانا کہتے

(ہیں) پس اگر تم سے یہ ہو سکے کہ کبھی بھی صبح و شام کی نماز قضا نہ ہو تو ایسا ضرور کرو۔ (ترجمہ کنز الایمان) اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ (روایۃ اللہ للدارقطنی، جلد 1، صفحہ 242، مکتبۃ المنار، الرقاء - الأردن)

☆☆☆ باب الاعتصام بالسنة ☆☆☆

مسند ابی حنیفہ میں ہے ”عَنْ زُفَرٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ح وَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَاضِي دِمَشْقَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا شَدَّادُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ زُفَرٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، ح وَثْنَا ابْنُ الْمُقَرَّرِ، ثَنَا أَبُو بَشِيرٍ الدَّوْلَابِيُّ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، كُلُّهُمْ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: رَأَيْتُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَصْنَعُ أَرْبَعًا قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ رَكِبْتَ رَاِحِلَتَكَ، وَاسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ، وَأَجْرَيْتَ حِينَ انْبَعَثَ بَعِيرُكَ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا طُفِتَ الْبَيْتَ لَمْ تُجَاوِزِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ حَتَّى تَسْتَلِمَهُ، وَرَأَيْتُكَ تُلَوِّنُ لِحْيَتَكَ بِالْصُّفْرِ، وَرَأَيْتُكَ تَتَوَضَّأُ فِي النَّعَالِ السَّبْتِيَّةِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ“ ترجمہ: زفر ابوحنیفہ سے، یہ عبید اللہ بن عمر سے (ح) عبید اللہ نے یہ حدیث سنی محمد بن ابراہیم سے انہوں نے ابو یحییٰ زکریا بن یحییٰ بلخی قاضی دمشق سے، انہوں نے سنی صد بن فضل سے، انہوں نے شداد بن حکیم سے، شداد نے زفر سے، زفر نے ابوحنیفہ سے (ح) ہم نے سنی ابن مقراء سے انہوں نے ابو بشر دولابی سے انہوں نے شعیب بن ایوب سے انہوں نے ابو یحییٰ حمائی سے انہوں نے سنی ابوحنیفہ سے اور انہوں نے عبید اللہ بن عمر سے اور ان سب نے سعید بن ابی

سعید سے اور سعید نے عبداللہ بن عمر سے، کہتے ہیں کہ ان سے کسی شخص نے سوال کیا: میں نے آپ کو چار طرح کے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے (اس کی وجہ کیا ہے؟) ابن عمر نے فرمایا: کون سے چار کام؟ وہ بولا: میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ احرام باندھے کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنی سواری پر سوار ہوتے ہیں، رخ قبلہ کا کرتے ہیں، اور جب آپ کی سواری چلنے لگتی تو آپ احرام کی پابندیوں کو جاری کرتے، یعنی احرام کی نیت کرتے ہیں اور جب طواف کعبہ کرتے ہیں تو رکن یمانی کا استلام کئے بغیر آگے نہیں گزرتے اور اپنی داڑھی کو زرد کرتے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کھال کے موزے میں وضو کرتے ہیں (شاید کھال کے موزے میں وضو کرنے سے مراد یہ ہوگا کہ وضو میں موزے پر مسح کرتے ہیں) جو اب ارشاد فرمایا: میں اس وجہ سے یہ چار کام کرتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔

(مسند ابی حنیفہ روایت ابی نعیم، باب العین، جلد 1، صفحہ 179، مشکۃ الکواثر، الریاض)

❁ کتاب الطہارۃ ❁

☆☆☆ باب الوضوء ☆☆☆

علل دارقطنی میں ہے ”عَنْ زُفَرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَمْرِو ذِي مَرْ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرْ، قَالَ: فغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَشَقَّ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا آخَرَ ففَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا آخَرَ ففَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ غَسْلًا“ ترجمہ زفر، حجاج بن ارطاة سے، خالد بن علقمہ سے، اور خالد،

عمرو سے، جبکہ عمرو حضرت علی ابن ابی طالب سے کہ حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا:
 جو رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے وضو کے طریقہ کو دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ لے۔
 فرمایا: پس آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے، ہاتھ کی ہتھیلی میں پانی لیا اور کلی کی، ناک میں پانی
 ڈالا پھر ایک ہتھیلی پانی کی لی پھر اسی طرح کیا، پھر ہتھیلی میں پانی لیا اور ایسا ہی کیا، پھر اپنے
 چہرہ مبارک کو تین مرتبہ دھویا پھر ہاتھوں سمیت اپنی کہنیوں کو دھویا پھر سر کا مسح کیا پھر پاؤں کو
 اچھی طرح دھویا۔

(علل دارقطنی، جلد 4، صفحہ 53، دارطیبہ، الریاض)

علل دارقطنی میں ہے ”عن زفر بن الہذیل، عن الحجاج بن أُرطاة، عن
 عمرو بن شعيب، عن زينب، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى
 الله عليه وسلم يقبل وهو على وضوء ولا يتوضأ“ ترجمہ: روایت ہے زفر بن ہذیل
 سے وہ حجاج سے وہ عمرو سے، عمرو، زینب سے اور زینب حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ
 عنہا) سے راوی، فرماتی ہیں: رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) بوسہ لیتے اس حال میں
 کہ آپ با وضو ہوتے لیکن بوسہ لینے کے بعد دوبارہ وضو نہ فرماتے۔

(علل دارقطنی، جلد 15، صفحہ 162، دارطیبہ، الریاض)

☆☆☆باب الغسل☆☆☆

المعجم الاوسط میں ہے ”نا زفر بن الہذیل قال: نا یزید بن أبی زیاد، عن
 عبد الرحمن بن أبی لیلی، عن علی قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 عن الميذى قال: فيه الوضوء وسألت عن المني قال: فيه الغسل“ ترجمہ: ہم سے
 حدیث بیان کی زفر بن ہذیل نے کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کی یزید بن ابی زیاد نے، یزید نے
 روایت کی ابن ابی لیلیٰ سے اور انہوں نے حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے، کہتے ہیں:

میں نے رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے مذی کے بارے سوال کیا تو نبی پاک (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منی کے بارے سوال کیا تو فرمایا: اس سے غسل (فرض ہو جاتا) ہے۔

(معجم اوسط، من اسمہ محمد، جلد 6، صفحہ 133، دار الحرمین، القاہرہ)

مجالس من أمالی أبي عبد الله بن منده میں ہے ”حدثنا شداد بن حكيم، حدثنا زفر بن الهذيل، عن أبي سعد البقال، عن أنس بن مالك، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قال: إذا كان منها ما يكون من الرجل اغتسلت“ ترجمہ: ہمیں حدیث بیان کی شداد بن حکیم نے انہیں زفر بن ہذیل نے، یہ روایت کرتے ہیں ابوسعید بقال سے یہ انس بن مالک سے کہ ایک عورت نے نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے سوال کیا کہ عورت اپنی خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو کیا حکم ہے؟ (یعنی غسل فرض ہوگا یا نہیں؟) نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: اگر وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو غسل کرے گی۔

(مجالس من أمالی أبي عبد الله بن منده، مجلس آخر فی ذی القعدة، جلد 1، صفحہ 181)

☆☆☆ باب جواز المسح علی الخفين ☆☆☆

المعجم الكبير لطبرانی میں ہے ”عن زفر بن الهذيل، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المسح على الخفين: للمُسافر ثلاثة أيام ولياليهن“ ترجمہ: زفر بن ہذیل سے وہ ابوحنیفہ سے وہ حماد سے وہ ابراہیم سے وہ ابو عبد اللہ سے وہ خزیمہ سے اور خزیمہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے موزوں پر مسح کے ارشادے حکم شرعی ارشاد فرمایا: مسافر کے لئے تین دن اور تین راتیں (مسح کی مدت) ہیں۔

(معجم کبیر لطبرانی، ابو عبد اللہ جدلی، جلد 4، صفحہ 96، مکتبہ ابن تیمیہ - القاہرہ)

☆☆☆ باب الحيض والنفاس والاستحاضة ☆☆☆

المعجم الكبير لطبرانی میں ہے "عَنْ زُفَرِ بْنِ الْهَدَيْلِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ وَلَا يَنْقُطِعُ عَنِّي الدَّمُ، قَالَ: دَعِيَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكَ، فَإِذَا ذَهَبَ أَيَّامُ حَيْضَتِكَ فَاغْتَسِلِي وَتَوَضَّعِي لِكُلِّ صَلَاةٍ" ترجمہ: زفر بن ہذیل ابو حنیفہ سے وہ ہشام بن عروہ سے ہشام اپنے والد سے جبکہ ہشام کے والد حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نے عرض کی: یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) مجھے استحاضہ کی بیماری ہے، خون ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا، تو شارع (علیہ السلام) نے ارشاد فرمایا: جو خاص حیض کے دن ہیں ان میں نماز چھوڑ دو اور جب حیض کے دن ختم ہو جائیں تو غسل کر اور ہر نماز سے پہلے وضو کیا کرو۔

(معجم کبیر لطبرانی، جلد 24، صفحہ 360، مکتبہ ابن تیمیہ - القاہرہ)

— کتاب الصلوة —

☆☆☆ باب الامامة ☆☆☆

مسند ابی حنیفہ میں ہے "عَنْ زُفَرِ بْنِ الْهَدَيْلِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ح، وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا سَلَمُ بْنُ عَصَامٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ زُفَرٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ح، وَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقَرَّرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَكْحُولٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا سَعِيدٌ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍاءَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالُوا: كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْتَ صَبِيٍّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُسْرِعَ أُمَّهُ لَهُ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ خَفِيفَةٍ كَامِلَةٍ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَذَوِي الْحَاجَةِ“ ترجمہ: مروی ہے زفر بن ہذیل سے وہ ابو حنیفہ سے (ح) ہم سے بیان کیا محمد بن حیان نے، انہوں نے سنی سلم سے سلم نے اپنے چچا سے اور ان کے چچا نے حکم بن ایوب سے انہوں نے زفر سے اور یہ ابو حنیفہ سے راوی (ح)۔۔۔ الخ۔ ابو ہریرہ سے راوی حضور نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے پسند کیا کہ اس کی ماں کی خاطر نماز جلدی ادا کروں، پس تم میں سے جو کوئی لوگوں کی امامت کرے تو ہلکی و کامل نماز پڑھائے کیونکہ اس کی اقتداء میں بوڑھے، بیمار اور ضروری کام پر جانے والے ہیں۔

(مسند ابی حنیفہ روایت ابی نعیم، صفحہ 265، مکتبۃ الکواثر، الرياض)

تلخیص المتشابه میں ہے ”حَدَّثَنَا أَبُو الْهَدَيْلِ زُفَرُ بْنُ الْهَدَيْلِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُعَاذُ، إِذَا كُنْتَ إِمَامًا فَخَفِّفْ عَلَى النَّاسِ، فَإِنَّهُ يَقُومُ وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ، وَالضَّعِيفُ، وَذَوُ الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّيْتَ وَحَدَّكَ فَطَوَّلْ مَا شِئْتَ“ ترجمہ: ہم نے حدیث سنی زفر بن ہذیل سے انہوں نے محمد بن عمرو سے انہوں نے روایت کی ابی سلمہ سے او را بی سلمہ نے ابو ہریرہ سے، کہتے ہیں: رسول اللہ نے فرمایا: اے معاذ! جب تجھے نماز کا امام بنایا جائے تو لوگوں پر نرمی کرو کیونکہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کبیر و ضعیف اور ضروری کام پر جانے والے افراد ہوتے ہیں۔ ہاں! اگر تمہارا پڑھنا تو جتنی چاہے لمبی کرو۔

(تلخیص المتشابه فی الرجم، جلد 1، صفحہ 378، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق)

☆☆☆ باب التشهد ☆☆☆

المعجم الكبير لطبرانی میں ہے ”عَنْ زُفَرِ بْنِ الْهَدَيْلِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ،

عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: السَّلَامُ عَلَى
 اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا:
 التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
 وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ
 أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" ترجمہ: زفر بن ہذیل ابوحنیفہ سے وہ حماد سے وہ شقیق بن سلمہ
 سے اور شقیق، ابن مسعود (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے، کہتے ہیں کہ صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم)
 کہا کرتے تھے "السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ
 اللَّهِ" اللہ پر سلام ہو، جبریل پر سلام ہو اور اللہ کے رسول پر سلام ہو، تو رسول اللہ (صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: تم یوں نہ کہو کہ اللہ پر سلام ہو کیونکہ وہ تو خود ہی سلام ہے، یوں
 کہا کرو کہ "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
 اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
 وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" تمام تحیتیں اور درود اور پاکیزگیاں اللہ کے لئے
 ہیں، اے نبی! آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات کا نزول ہو۔ سلام ہو ہم پر اور
 اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں
 کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں۔

(معجم کبیر لطبرانی، جلد 10، صفحہ 42، المکتبۃ ابن تیمیہ - القاہرہ)

☆☆☆ باب السَّيْرَةِ ☆☆☆

مجالس من امالی ابی عبد اللہ بن مندہ میں ہے "ثنا زفر بن الہذیل، عن

مسعر بن کدام، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وبين يديه عنزة أو شبه العنزة والطريق من وزائها والمارة“ ترجمہ: ہم سے حدیث بیان کی زفر نے، انہوں نے مسعر بن کدام سے یہ عون بن ابی جحیفہ سے اور یہ اپنے والد سے کہتے ہیں: حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مقام ابطح میں نماز پڑھی اور آپ کے سامنے نیزہ یا نیزہ نما چیز تھی جس کے آگے سے لوگ گزرتے تھے۔

(محالسن من أمالی أبي عبد الله بن منده، مجلس آخر فی شعبان، جلد 1، صفحہ 37)

☆☆☆ باب الجمعة ☆☆☆

مسند ابی حنیفہ میں ہے ”ثَنَا زُفْرُ بْنُ الْهَذِيلِ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ“ ترجمہ: ہمیں حدیث سنائی زفر بن ہذیل نے، زفر نے سنی ابو حنیفہ سے۔۔۔۔۔ نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: جو جمعہ کے لئے آئے تو وہ آنے سے پہلے غسل کر لے۔

(مسند ابی حنیفہ روایت ابی نعیم، صفحہ 240، مکتبہ الکواثر، الرياض)

علل دارقطنی میں ہے ”عَنْ زُفْرِ بْنِ الْهَذِيلِ، عَنِ الْحِجَّاجِ، عَنِ الزَّهَوِيِّ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَلْيُصِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، أَوْ لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى“ ترجمہ: روایت ہے زفر بن ہذیل سے اور وہ حجاج سے، حجاج، زہری سے، زہری، سعید بن مسیب سے، سعید، ابو ہریرہ سے اور یہ نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے، فرمایا حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے کہ جس نے جمعہ کی ایک رکعت پائی تو وہ اس کے ساتھ دوسری بھی ملائے یا (فرمایا) ایک اور رکعت پڑھ لے۔

(علل دارقطنی، جلد 9، صفحہ 224، دار طيبة، الرياض)

علل دارقطنی میں ہے ”عَنْ زُفَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،

عن عائشة قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين إلا المغرب فإنها وتر فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زيد ركعتين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي أَرْبَعًا“ ترجمہ: روایت ہے زفر سے یہ داؤد بن ابی ہند سے اور داؤد شعبی سے، شعبی، اماں عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے، فرمایا حضرت عائشہ نے: اولاً دو رکعت نماز فرض ہوئی تھی سوائے مغرب کے کیونکہ وہ وتر ہے۔ پھر جب رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) مدینہ تشریف لائے تو دو رکعتوں کا مزید اضافہ کر دیا گیا اور رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) چار رکعت پڑھنے لگے۔

(علل دارقطنی، جلد 14، صفحہ 278، دارطیبة، الرياض)

☆☆☆ باب صلاة المسافر ☆☆☆

علل دارقطنی میں ہے ”عَنْ زُفَرِ بْنِ الْهَدَيْلِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ

عروۃ، عن عائشة، قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم زيد في صلاة المقيم ركعتين، وترك صلاة المسافر“ ترجمہ: زفر بن ہذیل یحییٰ بن سعید سے یحییٰ عروہ سے عروہ عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے راوی: حضرت عائشہ نے فرمایا: پہلے جب نماز فرض ہوئی تو دو رکعت ہوئی بعد میں مقيم کے واسطے دو رکعت کا اضافہ کیا گیا جبکہ مسافر کے لئے دو ہی رہنے دیں۔

(علل دارقطنی، جلد 14، صفحہ 278، دارطیبة، الرياض)

تاریخ اصباحان میں ہے ”عَنْ زُفَرِ بْنِ الْهَدَيْلِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ

مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِخَيْبَرٍ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ“ ترجمہ: امام زفر بن حسن بن عمارہ سے، وہ مقسم سے، وہ ابن

عباس سے روای: رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) خیبر میں چالیس دن اور راتیں مقیم رہے اور آپ نے اس دوران دو رکعت ہی نماز ادا فرمائی۔

(تاریخ اصباح، باب الالف، جلد 1، صفحہ 228، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

❁ کتاب الاذان ❁

المعجم الاوسط میں ہے ”نا الحکم بن ایوب، عن زفر بن الہذیل، عن ابی حنیفہ، عن علقمہ بن مرثد، عن ابن بریدہ، عن ایبہ، أنَّ رجلاً من الأنصار مرَّ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو حزین، وكان الرجل ذا طعام یجتمع إلیه، ودخل مسجده یصلی، فینا هو كذلك إذ نَعَسَ، فأتاه آت فی النوم، فقال: عَلِمْتُ مَا حَزَنْتَ لَهُ، فَذَكَرَ قِصَّةَ الْأَذَانِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَخْبَرْنَا بِمِثْلِ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ، فَمُرُوا بِلَالٍ أَنْ يُؤْذَنَ بِذَلِكَ“ ترجمہ: ہمیں حدیث پہنچی حکم بن ایوب سے حکم نے روایت کی زفر بن ہذیل سے زفر نے ابوحنیفہ سے انہوں نے علقمہ بن مرثد سے علقمہ نے ابن بریدہ سے انہوں نے اپنے والد سے: ایک انصاری پریشانی کی حالت میں رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے پاس سے ہو کر گزرا حالانکہ وہ شخص مالدار تھا، اور وہ شخص حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی، پس اس دوران وہ پریشانی میں اونگھنے لگا، پس اس کے سوتے ہوئے ہی ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا: میں تیرے غمگین ہونے کی وجہ جانتا ہوں پھر اس نے اذان کا قصہ بیان کیا۔ پس نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ابوبکر نے بھی اس طرح کی خبر دی ہے۔ تم بلال سے کہو: وہ ان الفاظ سے اذان کہے۔

(معجم اوسط، من اسمہ احمد، جلد 2، صفحہ 293، دارالحرین، القاہرہ)

--- کتاب الصیام ---

معجم صغیر لطبرانی میں ہے ”حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ زُفَرِ بْنِ الْهَدَيْلِ، عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ الْحَبِيبِ الصَّيْرَفِيِّ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصِيبُ مِنْ وَجْهِهَا وَهُوَ صَائِمٌ تُرِيدُ الْقُبْلَةَ“ ترجمہ: ہمیں حدیث سنائی حکم بن ایوب نے انہوں نے روایت کی زفر بن ہذیل سے اور زفر ابو حنیفہ سے انہوں نے ہیشم بن حبیب صیرفی سے انہوں نے عامر شعبی سے عامر مسروق سے اور مسروق اماں عائشہ (رضی اللہ عنہا) سے مروی کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے چہرہ کا بوسہ لیتے حالانکہ آپ روزے سے ہوتے۔

(معجم صغیر لطبرانی، من اسمہ احمد، جلد 1، صفحہ 117، المکتب الاسلامی، بیروت، عمان)

مجالس من أمالی أبي عبد الله بن منده میں ہے ”حَدَّثَنَا زُفَرُ بْنُ الْهَدَيْلِ، عَنْ مَطْرِفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظُلُّ صَائِمًا وَيَقْبِلُ وَجْهِي أَيْنَ شَاءَ حَتَّى يَفْطُرَ“ ترجمہ: ہم سے حدیث بیان کی زفر بن ہذیل نے انہوں نے روایت کی مطرف بن طریف سے مطرف نے روایت کی عامر شعبی سے عامر مسروق سے مسروق عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے مروی، فرماتی ہیں: رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) دن میں روزہ رکھتے اور میرے چہرے کا بوسہ لیتے جہاں سے چاہتے تھے کہ افطار کرتے۔

(مجالس من أمالی أبي عبد الله بن منده، مجلس آخر فی الجزء الثالث، جلد 1، صفحہ 90)

علل دارقطنی میں ہے ”حَدَّثَنَا شَدَادُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ زُفَرٍ، عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ كَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْطَرْتُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّلًا الْحَدِيثَ“ ترجمہ: ہم نے سنی

شہاد بن حکیم سے شہاد نے روایت کی زفر سے زفر نے ابو حنیفہ سے یہ عطاء بن یسار سے، سعید بن مسیب نے اس طرح کافر مایا: ایک شخص نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے رمضان میں چان بوجھ کر روزہ توڑا ہے۔ اور پھر آگے پوری حدیث بیان کی۔ (کتاب میں یہاں تک ہی ہے۔)

(علل دارقطنی، جلد 10، صفحہ 245، دارطیبہ، الرياض)

تاریخ اصبهان میں ہے "عَنْ زُفَرِ بْنِ الْهَذِيلِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ حِبَالِ بْنِ رَفِيدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (الحجرات 1) قَالَ: لَا تَصُومُوا قَبْلَ أَنْ يَصُومَ نَبِيُّكُمْ. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، ثنا النُّعْمَانُ، عَنْ زُفَرٍ، مِثْلَهُ بِطَوِيلِهِ،" ترجمہ: روایت ہے زفر بن ہذیل سے وہ یحییٰ بن عبد اللہ التمیمی سے وہ حبال بن رفیدہ سے وہ مسروق سے اور مسروق حضرت عائشہ سے اللہ (عزوجل) کے اس قول ﴿لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (ترجمہ کنز الایمان) اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کے مطلب کے بارے میں: آپ فرماتی ہیں: اللہ کے فرمان کی تفسیر یہ ہے کہ اپنے نبی کے روزہ رکھنے سے پہلے روزہ نہ رکھو۔

تاريخ اصبهان میں ہے "عَنْ زُقَرٍّ، عَنْ يَحْيَى التَّمِيمِيِّ، عَنْ حَبَالِ بْنِ رُفَيْدَةَ،
عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَا جَارِيَةُ، خُوضِي
لِي سِرَافًا، فَخَاصَّتْ، فَقَالَتْ لَهُمْ: ذُقُوا، فَإِنَّ رَأْبَكُمْ شَيْءٌ فَمُرُوا الْأُمَّةَ
فَلْيَرُدَّكُمْ، فَإِنِّي لَوُ كُنْتُ مَفْطَرَةً ذُقْتُ لَكُمْ، قَالَ: وَنَحْنُ صِيَامٌ، قَالَتْ: وَمَا

صَوْمُكُمْ هَذَا؟ قَالُوا: إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ أَدْرَكْنَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَطَوَّعْنَاهُ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا الصَّوْمُ صَوْمُ النَّاسِ، وَالْفِطْرُ فِطْرُ النَّاسِ، وَالذَّبْحُ ذَبْحُ النَّاسِ، وَإِنِّي صُمْتُ هَذَا الشَّهْرَ فَأَدْرَكْتُمْ رَمَضَانَ، وَإِنْ أَنَا كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ترجمہ: روایت ہے امام زفر بن ہذیل سے وہ یحییٰ تمیمی سے وہ حبال بن رفیدہ سے وہ مسروق بن اجدع سے، کہتے ہیں: ہم حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کی خدمت سراپا اقدس میں حاضر ہوئے حضرت عائشہ نے اپنی کنیز سے فرمایا کہ میرے بیٹوں کیلئے شربت بنا کر لاؤ، وہ لائی تو آپ نے فرمایا: اسے پیو، اگر تمہیں مزید چاہیے تو کنیز کو کہہ دیجئے وہ مزید دے گی، اگر میں روزہ دار نہ ہوتی تو خود تمہیں دیتی، راوی کہتے ہیں: ہم روزہ دار تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا: تم نے آج کون سا روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا: اگر رمضان کا چاند نظر آ گیا تو رمضان کا ہو جائے گا ورنہ یہ نفل ہوگا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: جب لوگ رمضان کے روزے رکھنا شروع کریں تو رمضان کا روزہ رکھو اور جب لوگ روزے ختم کر کے عید الفطر کریں تو تم بھی روزے ختم کر کے عید الفطر کرو، اور جب لوگ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کریں تب تم قربانی کرو، میں نے تو اس ماہ (یعنی شعبان) کا روزہ رکھا ہے اور تم نے رمضان کا روزہ رکھ لیا، لوگ اسی طرح (رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے) پہل کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

(تاریخ اصفہان، باب النباء، جلد 2، صفحہ 325، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

تاریخ بغداد میں ہے ”ثَنَا ابْنُ شَدَّادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ زُفَرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ الْمُقَدَّامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُوتِي بِالْإِنَاءِ، فَأَبْدَأُ فَاشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَشْرَبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فِي" ترجمہ: شداد بن حکیم زفر سے یہ مسعر سے یہ مقدم بن شریح سے اور یہ اپنے والد سے جو حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے: رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی بارگاہ میں پینے کا برتن لایا جاتا، میں پینا شروع کرتی حالانکہ میں حیض سے ہوتی پھر رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پیتے اور میرے منہ رکھنے کی جگہ پر منہ رکھتے۔

(تاریخ بغداد، باب محمد، جلد 1، صفحہ 320، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

❁ کتاب الحج ❁

علل دارقطنی میں ہے "حدثنا شداد بن حکیم، عن زفر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كنت أنظر إلى ويص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلي" ترجمہ: ہم نے حدیث سنی شداد بن حکیم سے شداد زفر سے زفر نے اعمش سے اور اعمش نے ابراہیم سے انہوں نے اسود سے اور اسود نے اماں عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے کہ فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تلبیہ کہتے وقت میں رسول اللہ کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھتی تھی۔

(علل دارقطنی، جلد 15، صفحہ 77، دارطیبہ، الریاض)

مجالس من أمالي أبي عبد الله بن منده میں ہے "أنا شداد بن حکیم أنا زفر بن الهذيل عن حجاج بن أرطاة عن ابن أبي نجیح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنه تساقط هوام رأسه على وجهه قال: فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يخلع رأسه ونكف فزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من

رأسه) ترجمہ: ہمیں خبر دی شداد بن حکیم نے انہیں زفر بن ہذیل نے انہیں حجاج بن ارطاة نے انہیں ابن ابی شیح نے انہیں مجاہد نے انہیں ابن ابی لیلیٰ نے انہیں کعب بن عجرہ نے کہ وہ حدیبیہ کے وقت نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے ساتھ تھے کہ ان کے سر سے چہرے پر جھوں گری، کہتے ہیں: اسے نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے دیکھ لیا تو حکم دیا: اپنی حلق کرواؤ الو اور کفارہ دے دو۔ پس یہ آیت نازل ہوئی ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ (ترجمہ کنز الایمان) پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے (تو بدلے دے روزے یا خیرات یا قربانی)

(محالس من أمالی أبي عبد الله بن منده، مجلس آخر، جلد 1، صفحہ 223)

باب العمرة

تاریخ اصبهان میں ہے ”عَنْ زُفَرٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ عُمَرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ لِلْأَبَدِ الْحَدِيثُ“ ترجمہ: روایت ہے امام زفر سے وہ ابو حنیفہ سے اور ابو حنیفہ ابی زبیر سے اور وہ جابر سے کہ سراقہ بن مالک نے عرض کی: یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کیا یہ عمرہ اسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: نہیں! بلکہ ہمیشہ کے لئے ہے۔

(تاریخ اصبهان، باب الحاء، جلد 1، صفحہ 350، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

☆☆☆ باب لا تسافر امرأة ثلاثة أيام الخ ☆☆☆

مسند ابی حنیفہ میں ہے ”عَنْ زُفَرٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرِيعٍ،

ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، ح وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ، ثَنَا
 الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَّانٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، ح
 وَثَنَا ابْنُ الْمُقَرِّ، ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنْدِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا أَبُو قُرَّةَ، ثَنَا
 أَبُو حَنِيفَةَ، ح وَثَنَا أَبُو بَكْرِ الْمُقَرِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا
 مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، ح وَثَنَا الطَّلَحِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ
 بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمُقْدَامِ، ثَنَا أَبُو
 حَنِيفَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزْعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ
 الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَقَالَ: لَا
 تُسَافِرُ امْرَأَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا، أَوْ ذِي مَحَرَمٍ هَذَا لَفْظُ أَبِي
 يُوسُفَ، وَزُفَرَ "ترجمہ: رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فجر کے بعد حتی کہ سورج
 طلوع نہ ہو لے اور عصر کے جب تک غروب شمس نہ ہو جائے نماز سے منع فرمایا۔ اور دونوں
 عیدوں کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اور فرمایا: کوئی عورت تین دن یا اس سے
 زائد مسافت کے لئے بغیر شوہر یا محرم کے ہرگز نہ نکلے۔ یہ لفظ ابو یوسف اور زفر کے ہیں۔

(مسند ابی حنیفہ روایت ابی نعیم، باب العین، جلد 1، صفحہ 162، مکتبہ الکواثر، الرياض)

❁ کتاب الزکاة ❁

عَلَنُ دَارِ قُطْنِي مِلَّی ہے "عَنْ زُفَرَ بْنِ الْهَدَيْلِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي
 اسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَفْوَتْ
 عَنْ صَدَقَةِ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَفِي الْوَرَقِ رِيعَ الْعَشْرِ" ترجمہ: زفر بن ہذیل حجاج سے

حجاج نے ابواسحاق سے انہوں نے حارث سے اور حارث نے حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کی: رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ میں نے معاف کر دی جبکہ چاندی میں چالیسواں حصہ ہے۔

(علل دارقطنی، جلد 3، صفحہ 160، دارطیہ، الرياض)

علل دارقطنی میں ہے ”عَنْ زُفَرِ بْنِ الْهَذِيلِ عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةً دِرْهَمٍ زَكَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتِي دِرْهَمٍ فَفِيهَا خُمُسَةٌ دَرَاهِمٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ“ ترجمہ: زفر بن ہذیل سے اور یہ حجاج سے حجاج ابواسحاق سے یہ عاصم سے عاصم حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے فرمایا: 190 درہم میں زکوٰۃ نہیں۔ ہاں! جب 200 درہم ہو جائیں تو اس میں سے پانچ درہم زکوٰۃ ہوگی اور جو اس سے زائد ہے تو اس کی زکوٰۃ اسی حساب سے ہوگی۔

(علل دارقطنی، جلد 3، صفحہ 160، دارطیہ، الرياض)

❁ ————— ❁ کتاب النکاح

☆☆☆ باب نکاح الولی ☆☆☆

مجالس من امالی ابی عبد اللہ بن مندہ میں ہے ”أنا شداد بن حکیم، أنا زفر بن الهذیل، عن حجاج بن أرطاة عن الزهري عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نکاح إلا بولی، والسلطان ولی من لا ولی له“ ترجمہ: ہمیں خبر دی شداد بن حکیم نے شداد کو زفر نے انہیں حجاج بن ارطاة نے انہوں نے زہری سے یہ عروہ سے عروہ امال عائشہ سے، نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ولی کے بغیر نکاح نہیں اور جس کا کوئی ولی نہیں اس کا ولی سلطان ہے۔

(مجالس من امالی ابی عبد اللہ بن مندہ، مجلس آخری ذالحجۃ، جلد 1، صفحہ 253)

☆☆☆باب تحریم المتعة☆☆☆

علل دارقطنی 117/4 مطبوعہ الریاض، اور معجم اوسط میں ہے ”نا

شداد بن حکیم، نا زفر بن الہذیل، عن یحییٰ بن سعید، عن الزہری، عن عبد اللہ، والحسن ابْنی مُحَمَّد ابْن الحنفیۃ، عن ابیہما، عن علیؑ قال: نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعة النساء یوم خیبر“ ترجمہ: ہم نے حدیث سنی شداد بن حکیم سے شداد نے سنی زفر بن ہذیل سے زفر نے یحییٰ بن سعید سے یحییٰ نے زہری سے اور زہری نے عبد اللہ اور حسن ابن محمد بن حنفیہ سے اور ان دونوں نے اپنے والد سے اور ان کے والد حضرت علیؑ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مروی، کہتے ہیں: نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متعہ سے منع فرمایا۔

(معجم اوسط، من اسمہ الحسن، جلد 3، صفحہ 377، دار الحرمین، القاہرہ)

تاریخ بغداد میں ہے ”حدَّثَنَا شَدَادُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا زُفَرُ بْنُ الْهَذِيلِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ قَالَ سُلَيْمَانُ: لَمْ يَرَوْهُ عَنْ زُفَرٍ إِلَّا شَدَادُ“ ترجمہ: ہم سے بیان کیا شداد بن حکیم نے ان سے زفر بن ہذیل نے جو روایت کرتے ہیں یحییٰ بن سعید انصاری سے اور یہ زہری سے یہ عبد اللہ اور حسن جو کہ محمد بن حنفیہ کے بیٹے ہیں یہ دونوں اپنے والد سے اور ان کے والد حضرت علیؑ سے، فرماتے ہیں: رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے عورتوں سے متعہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سلیمان نے کہا امام زفر سے سوائے شداد کے روایت نہیں ہے۔

(تاریخ بغداد، باب النجاء، حرف السين، جلد 7، صفحہ 387، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

☆☆☆ باب الجماع ☆☆☆

معجم اوسط میں ہے ”ثنا زفر بن الہذیل، عن لیث بن ابی سلیم، عن ثابت بن عبید، عن ابی مسعود الأنصاری، أن رجلاً أقبل إلى الصلاة، فاستقبلته امرأته، فأكب عليها، فتناولها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فلم ينهه“ ترجمہ: ہم نے حدیث سنی زفر بن ہذیل سے، زفر نے سنی لیث بن ابی سلیم سے لیث نے ثابت بن عبید سے اور ثابت سے ابو مسعود انصاری سے کہ ایک شخص نماز کے لئے کھڑا ہوا تو اس کی بیوی اس کے سامنے آئی تو اس نے بیوی کے ساتھ جماع کر لیا پھر وہ حضور پر نور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ قصہ بیان کیا تو اس سے رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے منع نہ فرمایا۔

(معجم اوسط، من اسمہ محمد، جلد 7، صفحہ 185، دار الحرمین، القاہرہ)

— کتاب البیوع —

تاریخ اصیہان میں ہے ”عن زفر، عن الأعْمَشِ، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً من يهودي فرهنه بها درعاً من حديد“ ترجمہ: امام زفر سے اور یہ امام اعمش سے یہ ابراہیم سے یہ اسود سے اور اسود اماں عائشہ سے راوی، کہتی ہیں: رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ایک یہودی سے اناج خریدا اور اس کے پاس لوہے کی زرہ بطور گروی کے رکھی۔

(تاریخ اصیہان، باب الزاء، جلد 1، صفحہ 373، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

— کتاب الشفعة —

مسند ابی حنیفہ میں ہے ”عن زفر بن الہذیل، عن ابی حنیفہ، عن عبد

أَحْمَدُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُبَابِ الْحَمِيرِيُّ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ
خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ، ح وَثَنَا ابْنُ حَيَّانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَاشِدٍ، ثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي جَدِّي شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: إِنَّ بَعِيرًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ،
رَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَأَصَابَ مَقْتَلَهُ، فَقَتَلَهُ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ: إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فافعلوا بها كما فعلتم، واكلوا
لَفْظُ زُفَرٍ، تَابَعَهُ عَلَى هَذَا الْحِمِّ الْغَفِيرُ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَزَائِدَةُ، وَأَبُو
عَوَانَةَ، رَوَاهُ ضَمْرَةُ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَإِسْحَاقُ الرَّازِيُّ“ ترجمہ زفر بن ہذیل ابو حنیفہ سے یہ
سعید بن مسروق سے یہ عباس بن محمد بن رافع سے اپنے والد سے (ح) ہم نے سنی سلیمان بن احمد سے
انہوں نے عبدان بن احمد سے انہوں نے احمد بن حباب حمیری سے اور حمیری نے سنی مکی بن
ابراہیم سے اور انہوں نے ابو حنیفہ سے انہوں نے سعید بن مسروق سے سعید نے عباس سے
عباس نے محمد بن عباس سے انہوں نے ابن رفاعہ سے اور ابن رفاعہ سے روایت کی رافع بن
خدیج نے جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں (ح) ہم نے سنی ابن حیان سے اور یہ سنتے
ہیں ابو بکر محمد بن احمد بن راشد سے اور یہ عبد الرحمن بن عبد الصمد سے اور مجھ سے بیان کی
میرے داد شعیب بن اسحاق نے جنہوں نے سنی ابو حنیفہ سے اور ابو حنیفہ نے سعید بن
مسروق سے یہ عباس سے یہ رافع بن خدیج سے کہ زکوٰۃ کے اونٹوں میں ایک اونٹ کو ایک
شخص نے تیر مارا جو اس کے ذبح کرنے کی جگہ چالگا اور وہ مر گیا، انہوں نے اس کے بارے

رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے شرعی مسئلہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا: ان اونٹوں کی عادات وحشیوں کی عادات سی ہیں تو جب یہ بدک جائے تو تم اس کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا تم نے کیا اور پھر اسے کھا لو۔

(مسند ابی حنیفہ روایۃ ابی نعیم، جلد 1، صفحہ 120، مکتبۃ الکواثر، الرياض)

❁ کتاب الحدود ❁

سنن دارقطنی میں ہے ”بنا زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ نَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُقَطَّعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ“ ترجمہ: ہم سے حدیث بیان کی زفر بن ہذیل نے، انہیں حجاج بن ارطاة نے یہ عمرو بن شعیب سے اور یہ اپنے باپ سے اور ان کے والد اپنے دادا سے راوی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: چور کا ہاتھ دس درہم سے کم چوری کرنے پر نہ کاٹا جائے۔

(سنن دارقطنی، کتاب الحدود، جلد 4، صفحہ 260، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان)

❁ کتاب الوراثۃ ❁

معجم اوسط میں ہے ”عَنْ زُفَرِ بْنِ الْهُذَيْلِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَخَوَيْنِ كَانَتْ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ، وَأَعْمَرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أُمُّهُ، فَمَاتَتْ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا“ ترجمہ: زفر بن ہذیل سے روایت ہے، حجاج بن ارطاة سے حجاج حبیب بن ابی ثابت سے اور حبیب جابر بن عبد اللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے کہ دو بھائیوں کی مشترکہ زمین تھی۔ ان میں سے ایک نے اپنا حصہ اپنی والدہ کو عمری کے طور پر دیا، ان کی

والدہ کی وفات کے بعد رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ان کی والدہ کے حصہ کی زمین ان کے بلذین تقسیم فرمادی۔“

(معجم اوسط، من اسمہ محمد، جلد 6، صفحہ 146، دار الحرمین، القاہرہ)

❁ کتاب الجہاد ❁

معجم صغیر میں ہے ”عَنْ زُفَرِ بْنِ الْهَدَيْلِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، مُجَرِّى السَّحَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْأَحْزَابِ أَهْزِمُهُمْ وَزَلِّزْلَهُمْ“ ترجمہ: زفر بن ہذیل سے اور یہ اسماعیل بن ابی خالد سے یہ عبد اللہ بن ابی اوفی سے کہ نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے جنگ احزاب (خندق) کے دن فرمایا: اے کتاب کو نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے، جلد حساب لینے والے، (باطل) لشکروں کو شکست دینے والے ان کو شکست دے اور ان کے قدم اکھیڑ دے۔

(معجم صغیر لطبرانی، من اسمہ احمد، جلد 1، صفحہ 130، المکتب الاسلامی، بیروت، عمان)

المعجم الكبير للطبرانی ”ثَنَا زُفَرُ بْنُ الْهَدَيْلِ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَا قَاتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا قَطُّ حَتَّى يَدْعُوَهُمْ“ ترجمہ: ہمیں حدیث پہنچی زفر بن ہذیل کے ذریعے سے انہیں ابن ابی نجیح سے انہیں اپنے والد سے اور ان کے والد ابن عباس سے راوی، حضور نے کبھی کسی قوم سے جنگ نہ کی جب تک اسے پہلے اسلام کی دعوت نہ دے لیتے۔

(معجم کبیر لطبرانی، جلد 11، صفحہ 132، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

❁ کتاب الطب ❁

الطب النبوی لابی نعیم اصفہانی میں ہے ”عَنْ زُفَرِ بْنِ الْهَدَيْلِ، عَنْ أَبِي

حنيفة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا وَضَعَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً إِلَّا السَّامَ وَالْهَرَمَ فَعَلَيْكَ بِالْبَانِ الْبَقْرَ فَإِنَّهَا تَحِيطُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ“ ترجمہ: زفر ابو حنیفہ سے اور وہ قیس بن مسلم سے، قیس طارق سے اور طارق عبد اللہ بن مسعود سے اور ابن مسعود نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے، نبی مکرم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہ رکھی جس کی دوا نہ رکھی ہو سوائے موت اور بڑھاپے کے۔ پس تم گائے کے دودھ کا التزام رکھو کیونکہ وہ تمام پودوں کو کھا لیتی ہے۔

(الطب النبوی، لابی نعیم اصفہانی، باب ماء فی تعلم الطب، جلد 1، صفحہ 179، دار ابن حزم)

❁ کتاب الادب ❁

معجم کبیر میں ہے ”عَنْ زُفَرِ بْنِ الْهَدَّادِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا كَذَبْتُ مُنْذُ أُسْلِمْتُ إِلَّا كَذِبَةً وَاحِدَةً، كُنْتُ أُرْحِلُ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ فَسَأَلَنِي: أَيُّ الْبَرِّ حَالَةٍ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقُلْتُ: الطَّائِفِيَّةُ الْمُنْكَبَةُ، وَكَانَ يَكْرَهُهَا، فَلَمَّا أَتَى بِهَا قَالَ: مَنْ رَحَلَ هَذَا؟ قَالُوا: رَحْلُكَ، قَالَ: مُرُوا ابْنَ أُمِّ عَبْدِ فَلْيُرَحَّلْ، فَأَعِيدَتْ إِلَى الرَّحْلَةِ“ ترجمہ: زفر بن ہذیل سے اور زفر ابو حنیفہ سے یہ معن بن عبد الرحمن یہ اپنے والد ماجد سے اور ان کے والد عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے، فرماتے ہیں: میں جب سے اسلام لایا سوائے ایک مرتبہ کے کبھی جھوٹ نہ بولا (جس کی تفصیل یہ ہے کہ) میں نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی سواری تیار کرنے پر مامور تھا، اہل طائف کا ایک شخص میرے پاس آیا

اور پوچھنے لگا: حضور کو کون سی سواری سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ میں نے کہا: طائفی اونٹ جس کا ایک مونڈھا دوسرے سے بلند ہوتا ہے حالانکہ رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اسے ناپسند کرتے تھے، پھر جب اس سواری کو لایا تو رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: یہ سواری کس نے تیار کی؟ انہوں نے کہا: آپ کے رجال نے، تو رسول اللہ نے فرمایا: ابن ام عبد کو کہو کہ وہ (کوئی اور) سواری تیار کرے۔ پس وہ مجھے واپس کر دی گئی۔

(معجم کبیر لطبرانی، جلد 10، صفحہ 174، امکتیہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

تاریخ اصبہان میں ہے ”عَنْ زُفَرِ بْنِ الْهَذِيلِ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَسْرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا، فَإِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ“ ترجمہ: روایت ہے زفر بن ہذیل سے یہ ابان سے یہ انس بن مالک جو نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے راوی، آپ نے ارشاد فرمایا: آسانی پیدا کرو تنگی نہ کرو اور خوشیاں پھیلاؤ نفرت نہ پھیلاؤ۔ بے شک تمہارے دین کی سب سے بہترین بات اس کا آسان ہونا ہے۔

(تاریخ اصبہان، باب المیم، جلد 2، صفحہ 295، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام زفر کے مفتی بہ مسائل بصورت سوال جواب

مسئلہ نمبر 1

نماز میں مریض کے بیٹھنے کا انداز کیسا ہو؟

نص مذہبی یہ ہے کہ مریض جسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس کے لئے بیٹھنے کی کوئی ہیئت متعین نہیں، جس طرح چاہے بیٹھ کر نماز پڑھے۔ علامہ شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) لکھتے ہیں ”انہ یقعہ کیف شاء من تربع وغیرہ“ ترجمہ: مریض جس طرح چاہے بیٹھ کر نماز پڑھے یعنی دوزانوں بیٹھے یا چارزانوں۔

(وسیلۃ الزفر، صفحہ 72، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

علامہ شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے نص مذہبی کہ مریض جسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس کی علت وجہ یہ بیان فرمائی ”لان المرض اسقط عنه الارکان التی ہی فرض فلان تسقط عنه الھیئات التی ہی سنة من باب اولی“ ترجمہ: کیونکہ بیماری نے اس سے فرض ارکان ساقط کر دیئے تو ہیئت جو کہ سنت ہے وہ بدرجہ اولیٰ معاف ہوگئی۔ (وسیلۃ الزفر، صفحہ 73، دار خضر، احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا مذہب

بہتر یہ ہے کہ مریض تشہد کی ہیئت میں بیٹھے۔ علامہ شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) لکھتے ہیں ”فالمسئلة الاولى: فالمسئلة الاولى من المسائل الراجحة فعود المريض فی صلاتہ كحالة التشہد فیصب رجليه الیمنی ویفترش رجليه الشری كحالة التشہد فی القعدتین“ ترجمہ: امام زفر کے رائج مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مریض بیٹھ کر نماز پڑھنے میں تشہد کی طرح بیٹھے گا۔ یعنی اپنا سیدھا پایاؤں

کھڑا کرے گا اور الٹا بچھائے گا جس طرح قعدہ اولیٰ وقعدہ اخیرہ میں کیا جاتا ہے۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 72، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

پھر اس کے بعد علامہ شامی نے مریض کے مرض اور اسی لحاظ سے نماز پڑھنے کے انداز کی وضاحت بیان کی ہے۔ جسے تسہیل و تلخیص کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔

جو شخص بوجہ بیماری کے حقیقتاً کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں یا حکماً کھڑا ہونے پر قادر نہیں، تو ان صورتوں میں بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں ”فاذا تعذر علی المريض القيام حقيقة او حکما صلی قاعد ابرکوع وسجود“ عبارت کا مفہوم وہی ہے جو عبارت سے اوپر لکھا ہے۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 73، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

اس کے بعد علامہ شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے بیان کیا کہ اگر کوئی بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ لکھتے ہیں ”فان تعذر ال رکوع والسجود صلی بالایماء قاعدا وجعل ایماءہ بالسجود أخفض من ایمانہ بال رکوع فان جعلهما فی الایماء سواء لا یصح لفقد السجود حقيقة او حکما مع القدرة“ (وسيلة الزفر، صفحہ 74، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

پھر علامہ شامی نے وہ صورت بیان کی جس میں مریض بیٹھ کر اشارہ بھی نہیں کر سکتا چنانچہ ”فان لم یقدر علی الایماء قاعدا او ماء بال رکوع والسجود مستلقیا علی قفاه او علی جنبہ الایمن او الایسر والاول افضل“ و”یستحب للمستلقي ان یجعل تحت راسه وسادة لیصرو جهة الی القبلة“ ترجمہ: پس اگر وہ بیٹھ کر اشارے سے بھی نماز پڑھنے پر قادر نہیں تو وہ چپ یعنی سیدھا لیٹ کر رکوع و سجود کا اشارہ کرے یا دائیں و بائیں کروٹ پر لیٹ کر اشارہ کرے اور چپ لیٹ کر یعنی سیدھا لیٹ کر افضل ہے اور

مستحب یہ ہے کہ سیدھا لیٹنے والا اپنے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھے تاکہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ (وسيلة الزفر، صفحہ 74، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

اس کے بعد علامہ شامی نے مریض کی ایسی حالت بیان کی جس میں نماز معاف ہو جاتی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں ”فان تعد الايماء بالرأس اخرت عنه الصلوة القليلة وهي صلوة يوم وليلة وان زادت على صلوة يوم وليلة لم يجب قضاءها عليه اذا صح وان كان يفهم مضمون الخطاب على ما عليه الاكثر وهو الاصح وان مات في مرضه لم يجب عليه الايماء بها وان كانت قليلة وكذا الصوم ولا يصح الايماء عندنا بالعين ولا بالحاجب ولا بالقلب“ ترجمہ: پس اگر مریض سر کے اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکے تو اس سے ایک دن کی نماز کو موخر کر دیا جائے گا اور اگر ایک دن سے نمازیں اس حال میں زیادہ ہو جائیں تو اس پر ان کی قضا واجب نہیں اگرچہ بعد میں تندرست بھی ہو جائے اور اگرچہ بات وغیرہ سمجھتا ہو، اسی پر اکثر فقہاء ہیں اور یہی صحیح ہے اور اگر اسی مرض میں اسی حال میں مرجائے تو ان نمازوں کے فدیہ کی وصیت کرنا بھی ضروری نہیں اگرچہ قلیل ہی کیوں نہ ہوں یہی حکم روزے کا بھی ہے۔ ہمارے احناف کے نزدیک آنکھ، ابرو و ل کے ارشاد سے نماز صحیح نہیں۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 6-75، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

مسئلہ نمبر 2

نفل نماز میں بیٹھنے کا انداز کیسا ہو؟

نص مذہبی یہ ہے کہ نفل پڑھنے والا دو زانوں یا چار زانوں یعنی پالتی مار کر جس طرح چاہے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ علامہ شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) لکھتے ہیں ”نص

المذهب في هذه: انه يقعد كيف يشاء كما قالوا في صلوٰۃ المريض "ترجمہ: نفل پڑھنے والا جس طرح چاہے بیٹھ کر نماز پڑھے جیسا کہ مریض کے بارے حکم ہے۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 77، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا مذہب

امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کا مذہب یہ ہے کہ نفل بیٹھ کر پڑھنے میں بیٹھنے کا انداز تشہد والا ہو (مگر جب قراءت کرے تو ہاتھ قیام کی طرح ہی باندھے یعنی جس طرح قراءت کے وقت ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ اور یہ اختلاف صرف افضلیت میں ہے، باقی چارزا نو یا جس طرح بھی بیٹھ کر نماز پڑھی جائے جائز ہے۔ (بہتر یہ ہے کہ پالتی مارنے کی بجائے تشہد کی ہیئت میں بیٹھا جائے)۔ علامہ شامی لکھتے ہیں "قعود الممتفل فی صلاتہ کھیئۃ التشہد" ترجمہ: بیٹھ کر نفل پڑھنے والا تشہد میں بیٹھنے والے کی طرح بیٹھے گا۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 77، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

نوٹ:

مذکورہ دونوں مسئلوں میں ہر طرح بیٹھنا جائز ہے۔ فقہاء کا اختلاف صرف تعیین افضل میں ہے اور افضل یہ ہے کہ تشہد کی طرح بیٹھا جائے۔ جیسا کہ بنیابہ 54 1/2 اور تبیین الحقائق میں ہے "واختلفوا فی کیفیۃ القعود فی غیر حالۃ التشہد فروی عن ابی حنیفۃ انه مخیر ان شاء احتبی وان شاء تربیع وان شاء قعد كما يقعد فی التشہد وعن ابی یوسف انه یحتبی لما روی انه علیہ الصلاۃ والسلام کان یصلی فی آخر عمرہ محتبیا وعن محمد انه یربع وعن زفر انه یقعد كما یقعد فی حالۃ التشہد؛ لانه عهد مشروعا فی الصلاۃ وهو المختار" ترجمہ: حالت

تشہد کے علاوہ بیٹھنے کی کیفیت میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام اعظم سے مروی ہے کہ جس طرح چاہے بیٹھے۔ اکڑوں بیٹھے، پالتی مار کر یا قعدہ کی شکل میں، جبکہ امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ اکڑوں بیٹھے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں احتباء کی ہیئت میں نماز پڑھی، امام محمد سے مروی ہے کہ پالتی مار کر بیٹھے، امام زفر سے مروی ہے کہ تشہد کی سی طرح بیٹھے، کیونکہ اس کا نماز میں مشروع ہونا معلوم ہے اور یہی مختار ہے۔

(تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الوتر والنوافل، جلد 1، صفحہ 176، مطبوعہ مصر)

علامہ شامی لکھتے ہیں ”وأفاد فی النہر أن الخلاف فی تعیین الأفضل وأنه لا شک فی حصول الجواز علی أي وجه کان“ ترجمہ: نہر میں ہے اختلاف تعیین افضل میں ہے، باقی جس طرح چاہے بیٹھا جائے، اس کے جواز میں کوئی شک نہیں۔

(درمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الوتر والنوافل، جلد 2، صفحہ 38، دار الفکر، بیروت)

مسئلہ نمبر 3

غائب شوہر کی عورت کے اخراجات کی صورت

کسی عورت کا شوہر غائب ہو گیا، کوئی مال بھی نہیں چھوڑ کر گیا کہ بیوی اس سے اپنا ضروری خرچہ پورا کرے، وہ قاضی کے پاس گئی کہ میرا نفقہ مقرر کیا جائے، شوہر کے غائب ہونے کا ثبوت ملنے کے بعد قاضی نے بیوی کو قرض لے کر اپنے ضروری اخراجات پورے کرنے کا فیصلہ دیا اور کہا: جب شوہر واپس آئے گا تو قرض اتارے گا۔ نص مذہبی میں ہے کہ قاضی کا ایسا کرنا جائز نہیں۔ علامہ شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) لکھتے ہیں ”لو غاب الإنسان وله زوجة ولم يخلف مالا فإراد الزوجة فرض نفقتها ورفع الأمر إلى القاضي وإقامت بينة على ذلك ليفرض لها النفقة عليه ويأمرها بالاستدانة“

فعندابی حنیفة وصاحبیہ رحمہم اللہ تعالیٰ لایقضی بہ لانه قضاء علی الغالب
 وهو غیر جائز الا فیما استثنیٰ“ ترجمہ: ایک شخص غائب ہو گیا اور اس کی بیوی تھی،
 شوہر نے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا کہ عورت اپنی گزراوقات کر سکے، عورت اخراجات کی
 طلبگار ہے۔ جس کے لئے وہ قاضی کے پاس گئی اور قاضی کے حضور گواہوں سے ثابت کر دیا
 کہ میرا شوہر گم ہو گیا ہے لہذا میرا خرچہ جو اس پر تھا وہ دلایا جائے۔ جب گواہوں سے واقعی
 طور پر ثابت ہو جائے کہ وہ گم ہو چکا ہے تو قاضی اسے قرض لے کر اپنی گزراوقات کا حکم
 دے اور بعد میں شوہر آکر ادا کرے۔ امام اعظم اور صاحبین (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کے
 نزدیک قاضی کا یہ فیصلہ جائز نہیں کہ یہ قضاء علی الغائب ہے یعنی اس شخص کے خلاف
 فیصلہ ہے جو موجود نہیں اور یہ جائز نہیں سوائے چند ایک مستثنیٰ صورتوں کے۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 78، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا مذہب

امام زفر کا مذہب یہ ہے کہ قاضی کا ایسا کرنا جائز ہے۔ اور یہی مفتی بہ، اسی پر قضاة
 (Judges) کا عمل اور یہی امام مالک، شافعی، احمد (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کا مذہب ہے۔
 علامہ شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) لکھتے ہیں ”وعند زفر رحمہ اللہ تعالیٰ یقضی بہا و علیہ
 الفتویٰ وهو قول الائمة الثلاثة وعلیہ عمل القضاة“ ترجمہ: امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ
 علیہ) کے نزدیک قاضی کا یہ فیصلہ کرنا درست ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور یہی قول آئمہ ثلاثہ
 کا ہے اور آج اسی پر قاضیوں کا عمل ہے۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 79، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

مسئلہ نمبر 4

کسی کے ناحق مقدمہ سے کسی کا مال حاکم نے لیا تو

وسیلۃ الزفر میں نص مذہبی کو صراحت سے بیان نہ کیا۔

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا مذہب

اگر کسی شخص نے بغیر کسی وجہ کے ایک شخص کی پیشی کسی حاکم کے سامنے کرادی اب حاکم نے ظما اس سے کچھ مال لے لیا تو جو شخص اس کو لے گیا تھا، اس پر اتنا مال لازم ہوگا اس کو تنبیہ کرنے کیلئے کہ ایسے ہی بلا وجہ کسی کی پیشی نہیں کرانی چاہیے۔ ہاں! اگر غلام ہے تو بعد آزاد ہونے کے ضمان کی ادائیگی کرے گا۔ علامہ شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) لکھتے ہیں ”لوسعی انسان بانسان بریء الی سلطان فغرمہ مالا بغیر حق ضمن الساعی المال زجرالہ فی الحال ان حراوان عبدا فبعد العتق وهذا ایضا قول محمد رحمہ اللہ تعالیٰ وهو المفتی بہ کما علمت“ ترجمہ: اگر کسی شخص نے دوسرے پر مقدمہ کیا اور سلطان کے حضور دوسرے کا ناحق مال لینے پر قدرت پا گیا تو لیجانے والے پر فوراً اس مال کا ضمان لازم ہوگا اگر وہ آزاد ہے اور اگر غلام ہے تو تاوان بعد آزادی کے لازم ہوگا۔ یہ امام محمد (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا مذہب بھی ہے اور یہی مفتی بہ ہے جیسا کہ تجھے معلوم ہے۔

(وسیلۃ الزفر، صفحہ 81، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

مسئلہ نمبر 5

وسیلۃ الزفر میں نص مذہبی کو صراحت سے بیان نہ کیا۔

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا مذہب

وکیل بالخصومة اور وکیل بالتقاضی کو مال پر قبضہ کرنے کا کوئی

اختیار نہیں۔ علامہ شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) لکھتے ہیں ”الوکیل بالخصومة والتقاضی

لا يملك قبض المال عند زفر رحمه الله تعالى وعليه الفتوى لفساد الزمان واعتمد في البحر العرف كما لا يملك للصلح اجماعا بحر“ ترجمہ: امام زفر کے نزدیک وکیل بالخصومة اور وکیل بالتقاضی مال پر قبضہ کرنے کا مالک نہیں۔ فساد زمانہ کی وجہ سے اب اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے اور بحر میں عرف پر اعتماد کیا ہے۔ جس طرح اجماعی مسئلہ یہ ہے کہ وکیل بالخصومة وبالتقاضی صلح کا مالک نہیں اسی طرح قبضہ کرنے کا بھی مالک نہیں۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 84-82، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

مسئلہ نمبر 6

مکان خریدنے میں خیار رویت کا مسئلہ

ظاہر الروایہ خیار رویت سے متعلق یہ ہے کہ جس نے کسی مکان کا صحن یا اس کا بیرونی حصہ دیکھا اور اسے خرید لیا تو اسے خیار رویت حاصل نہ ہوگا۔ علامہ شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) لکھتے ہیں: ”وعند اصحابنا الثلاثة رحمهم الله تعالى يكفي رؤية الدار من صحنها هو المسمى عندنا بالحوي“ ترجمہ: امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کے نزدیک گھر کے صحن کو دیکھنے سے خیار ساقط ہو جائے گا جسے ہمارے ہاں حوی کا نام دیا جاتا ہے۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 84، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا مذہب

امام زفر کا مذہب یہ ہے کہ کمروں کا اندرونی حصہ جب تک دیکھ نہ لیا جائے خیار رویت ساقط نہیں ہوتا ”لو اشتري رجل دارا ولم ير هائيت له خيار الرؤية فلا يسقط خياره برؤية الدار من صحنها بل لابد من رؤية داخل البيوت عند زفر به يفتي“

ترجمہ: اگر کسی شخص نے کوئی گھر خریدا اور اس کے کمروں کو اندر سے نہیں دیکھا، صرف صحن کو دیکھا ہے، تو جب تک کمروں کا اندرونی منظر نہ دیکھ لے خیار رویت ساقط نہ ہوگا۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 84، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

مسئلہ نمبر 7

کیڑے کا تھان او خیار رویت کا مسئلہ

نص مذہبی یہ ہے کہ کیڑے کے تھان کو دیکھ کر خرید لینے سے خیار رویت ساقط ہو جاتا ہے۔ علامہ شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) لکھتے ہیں ”ونص اصحابنا الثلاثة رحمہم اللہ تعالیٰ انہ یکفی رؤیۃ ظاہرہ ویسقط الخیار بہ“ ترجمہ: ہمارے اصحاب ثلاثہ یعنی امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) نے صراحت فرمائی کہ ظاہری تھان دیکھ لینا کافی ہے اور اس سے خیار رویت ساقط ہو جائے گا۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 88، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا مذہب

امام زفر کا مذہب یہ ہے کہ خالی تھان کو دیکھ لینے سے خیار رویت ساقط نہیں ہوتا، تھان کھول کر دیکھ لے گا تو خیار رویت ساقط ہو جائے گا۔ علامہ شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) لکھتے ہیں ”لو اشتری ثوباً ولم یرہ ثبت لہ خیار الرؤیۃ فلا یسقط خیارہ برؤیۃ ظاہر الثوب مطوياً بل لا بد من نشرہ ورؤیۃ باطنہ عند زفر رحمہ اللہ تعالیٰ وهو المفتی بہ کما علم“ ترجمہ: کسی نے کپڑا خریدا اور اسے اچھی طرح دیکھا نہیں تو محض لپیٹے ہوئے کپڑے کے ظاہری حصہ کو دیکھنے سے خیار رویت ساقط نہ ہوگا۔ اور اس کیڑے کو اندر سے کھول کر دیکھنے کی صورت میں خیار رویت ساقط ہوگا۔ یہ فتویٰ امام زفر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

کا ہے اور یہی مفتی بہ ہے جیسا کہ معلوم ہے۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 88، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

مسئلہ نمبر 8

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا مذہب

”لو كفل رجل رجلا كفالة نفس و شرط تسليمه للمكفول له في مجلس القاضی و جب تسليمه فيه فلا يجوز في غيره ولا يبرأ بذلك عند زفر رحمه الله تعالى وعليه الفتوى في هذا لازمة لتهاون الناس في اعانة الحق“ ترجمہ: اگر کسی شخص نے کسی شخص کی کفالت نفس کی اور مکفول لہ سے شرط کر لی کہ وہ اسے مجلس قاضی میں حاضر کرے گا تو اس شخص پر واجب ہوگا کہ طلب کرنے پر اسے قاضی کے پاس یعنی اس کی مجلس میں حاضر کرے، امام زفر کے نزدیک قاضی کی مجلس کے سوا کہیں اور حاضر کرنے سے وہ بری الذمہ نہ ہوگا۔ حق کی معاونت کرنے میں لوگوں کی سست روی کی وجہ سے، ہمارے زمانے میں اسی پر فتویٰ ہے۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 88-89، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

مسئلہ نمبر 9

نص مذہبی یہ ہے کہ اگر کسی نے صحیح سلامت چیز خریدی پھر کسی وجہ سے اس میں عیب پیدا ہو گیا تو امام اعظم و امام محمد (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما) کا فرمان ہے کہ اب اس کی بیع مباح جائز ہے اور بیع مباح کے لئے یہ بیان کرنا کچھ ضروری نہیں کہ میں نے بلا عیب کے چیز خریدی تھی، عیب میرے پاس آکر پیدا ہوا ہے۔ ہاں! البتہ موجود عیب کو بیان کرنا ضروری ہے۔

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا مذہب

امام زفر اور آئمہ ثلاثہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کا مذہب یہ ہے کہ بیع مراہجہ کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ مشتری کو بتائے کہ میرے پاس عیب سے سلامت آئی تھی، عیب میرے پاس آنے کے بعد پیدا ہوا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں ”و لو اشتري شيئاً سليماً من العيب فتعيب عنده بأفة سماوية أو بصنع المبيع ثم اراد أن يبيعه مرابحة فلا بد من بيان انه اشتراه سليماً من العيب عند زفر وعليه الفتوى وهو قول ابي يوسف والثلاثة رحمهم الله تعالى ونص المذهب على قول الامام ومحمد رحمهما الله تعالى انه يجوز له بيعه مرابحة بلا بيان انه اشتراه سليماً من العيب، اما بيان نفس العيب فواجب“ ترجمہ: کسی نے صحیح سلامت کوئی چیز خریدی، خریدنے کے بعد اس میں خرابی پیدا ہوئی، پھر اس کا ارادہ ہوا کہ اس کی بیع مراہجہ کرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جس کے ساتھ بیع مراہجہ کرنی اسے بتائے کہ میں نے یہ چیز صحیح سلامت خریدی تھی اور اس میں یہ عیب میرے پاس آکر ہوا ہے۔ یہ امام زفر کا فتویٰ ہے اور یہی مفتی بہ ہے اور یہی امام ابو یوسف اور دیگر آئمہ ثلاثہ کا قول ہے۔ اور نص مذہبی امام محمد کے قول پر یہ ہے کہ اس کی بیع مراہجہ جائز ہے اور اس میں یہ ضروری نہیں کہ وہ یہ بیان کرے کہ میں نے صحیح سلامت خریدی تھی، ہاں نفس عیب جو موجود ہے وہ بیان کرنا لازمی ہوگا۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 90-91، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

مسئلہ نمبر 10

شیخین یعنی امام اعظم و امام ابو یوسف (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے ہے کہ شفعہ طلب کرنے کے بعد ایک ماہ کی تاخیر ہو یا اس سے زائد عرصہ کی، تاخیر کی کوئی وجہ ہو یا نہ

ہو شفعہ باطل نہ ہوگا۔

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا مذہب

امام زفر کا مذہب یہ ہے کہ طلب (مواثبت اور طلب اشہاد) کے بعد شفیع کا (طلب تملیک وخصومت) میں ایک ماہ کی تاخیر کرنا شفعہ کو باطل کر دے گا۔ جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب شفیع کو شفعہ والی جگہ کی خرید و فروخت کی خبر ملی اور اس نے اسی مجلس میں شفعہ کے حق کو اختیار کیا یعنی یوں کہا کہ میں نے شفعہ کو طلب کیا یا کہا کہ میں اس حق شفعہ کو طلب کرتا ہوں۔ اس میں گواہ بنانا ضروری نہیں۔ گواہ بنانے کا اس لئے کہا جاتا ہے تاکہ بعد میں کوئی انکار نہ کرے۔ امام محمد بھی امام زفر کے ساتھ ہیں۔ علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں

”تاخیر الشفیع الشفعة بعد الا شہاد شہرا یطلہا ای اذا بلغ الشفیع البیع فی مالہ شفعة فیہ فطلب الشفعة فی مجلسہ بان قال طلبت الشفعة اوانا طلبہا وہو طلب مواثبة والاشہاد فیہ لیس شرط للصحة بل لخوف الانکار ثم طلب طلب الاشہاد بان اشہد علی البائع بان کان العقار فی یدہ أو علی المشتري مطلقا بان یقول انا فلانا اشتري هذا الدار أو ذاك العقار وانا شفيعها أو شفيعه وقد كنت طلبتها ای الشفعة وانا اطلبها الآن فاشهدوا علیہ وهذا الطلب لا ید منه طلب التملیک والخصومة اذا اخره شہرا بطلت شفعته عند زفر رحمہ اللہ تعالیٰ وهو المفتی بہ وهو قول محمد رحمہ اللہ تعالیٰ ایضا وتنص المذہب علی قول الامام وابی یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ أنها لا تبطل بتاخير طلب التملیک بعد الطلبین مطلقا بعدد وبغيره شہرا أو اکثر حتی یسقط الشفعة بلسانہ“ ترجمہ: طلب اشہاد کے بعد شفیع کا شفعہ میں ایک ماہ کی تاخیر کرنا شفعہ کو باطل

کردے گا۔ یعنی جب شفع کو بیچ کی خبر ملی اور اس نے اسی مجلس کے اندر ہی شفعہ کا مطالبہ کیا
یعنی یوں کہا: میں نے شفعہ طلب کیا یا میں اس کو طلب کرتا ہوں۔ اس کو طلب مواثبت کہتے
ہیں۔ اور یہاں گواہ بنانا شفعہ کے صحیح ہونے کے لئے شرط نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ بائع بعد
میں شفعہ سے انکار نہ کر سکے پھر وہ طلب اشہاد کرے، یوں کہ بائع کے پاس تب طلب اشہاد
کرے گا جب زمین اس کے قبضے میں ہوگی، اور مشتری کے پاس مطلقاً طلب اشہاد کر سکتا
ہے (چاہے زمین اس کے قبضے میں ہو یا نہ ہو) اور یوں کہے گا کہ فلاں نے اس گھر کو یا اس
زمین کو خریدا ہے اور میں اس کا شفعی ہوں، میں نے طلب مواثبت کے ذریعے پہلے شفعہ
طلب کیا تھا اور اب طلب اشہاد کرتا ہوں تو تم اس پر گواہ بن جاؤ، اس طلب اشہاد کی وجہ
سے اب طلب تملیک و خصومت کرنا لازم ہو جاتا ہے) امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا فتویٰ
یہ ہے کہ اگر کسی نے اس (طلب تملیک و خصومت) میں ایک ماہ تاخیر کی تو اس کا شفعہ کا حق
باطل ہو جائے گا۔ یہی مفتی بہ اور امام محمد کا بھی ایک قول یہی ہے۔ اور نص مذہبی امام اعظم
اور امام ابو یوسف کے قول پر ہے کہ دو طلبوں کے بعد طلب تملیک میں اگر کسی عذر کی وجہ
سے تاخیر کی تو مطلقاً شفعہ باطل نہیں ہوگا اور اگر بغیر عذر کے ایک ماہ یا اس سے زائد تاخیر کی
تب بھی شفعہ ساقط نہیں ہوگا۔ شفعہ ان طلبوں کے بعد اسی وقت باطل ہوگا جب وہ صاف
کہہ دے کہ میں نے اپنے حق کو ساقط کیا۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 94، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

مسئلہ نمبر 11

ملتقط نے لقطہ پر اذن قاضی سے کچھ خرچ کیا، اس کا مالک ظاہر ہوا تو ملتقط کو اپنا
کیا ہوا خرچہ وصول کرنے کے لئے لقطہ کو اپنے قبضے میں رکھنا جائز ہے بعد جس اگر لقطہ ہلا

ک ہو گیا تو آئمہ ثلاثہ کے نزدیک اس کا خرچہ لینا پھر بھی جائز ہے۔ یہ نص مذہبی ہے۔

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا مذہب

امام زفر کا مذہب یہ ہے کہ لقطہ کو وصولی خرچہ کے لئے جس کیا اور لقطہ ہلاک ہو گیا، تو کیا ہوا خرچہ ساقط ہو جائے گا اور یہی مفتی بہ ہے۔ غلامہ شامی لکھتے ہیں ”اذا انفق الملتقط على اللقطة باذن القاضي فظهر ربها فللملتقط حبسها عنه حتى يستوفي النفقة فاذا حبسها لاجلها فهلك بعد الحبس سقط ما انفق عليها عند زفر رحمه الله تعالى وهو المفتي به وعند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى لا يسقط لو هلك بعده“ ترجمہ: جب لقطہ اٹھانے والے نے لقطہ کی حفاظت پر کچھ اپنی جیب سے قاضی کی اجازت سے خرچہ کیا۔ پھر اس کا مالک مل گیا، تو لقطہ اٹھانے والے کو اختیار ہے کہ وہ اپنا کیا ہوا خرچہ وصول کرنے تک لقطہ کی چیز کو اپنے قبضہ میں رکھے، اس وجہ سے قبضہ میں رکھنے کی صورت میں اگر وہ چیز ضائع ہو جائے تو امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا فتویٰ یہ ہے کہ اب وہ لقطہ کی چیز پر کیا ہوا خرچہ نہیں لے سکتا۔ یہی مفتی بہ ہے۔ اور ہمارے آئمہ ثلاثہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کا مذہب ہے کہ خرچہ وصول کرنے کے لئے روکنے کی وجہ سے ہلاک ہونے کی صورت میں ملتقط کا کیا ہوا خرچہ ساقط نہ ہوگا۔ بلکہ وہ اب بھی لے سکتا ہے۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 98، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

مسئلہ نمبر 12

جب مقروض قرض لی ہوئی شے سے اچھی و سٹھری چیز واپس کرے تو قرض خواہ کو لینے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ مذہب کی نص ہے۔

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا مذہب

امام زفر کا مذہب یہ ہے کہ مقروض واپس اچھی چیز کرے تو قرض خواہ کو لینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ علامہ شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) لکھتے ہیں ”اذا قضی الغريم جیاد ابدل زیوفہ لا یجبر علی القبول ای اذا کان عند رجل لاخر دراهم زیوف قضی الغريم غريمه جیاد ابدلها لا یجبر علی قبول ذلك اذا لم یرضی بها عند زفر رحمہ اللہ تعالیٰ وعلیہ الفتوی لانہ امتنع عن قبول غیر حقہ فلا یجبر علیہ وقیل علی قول أئمتنا الثلاثة رحمہم اللہ تعالیٰ انہ یجبر علی القبول لكن الاصح المفتی بہ هو الاول“ ترجمہ: اگر مقروض قرض لی ہوئی چیز سے عمدہ چیز واپس کرے تو قرض خواہ کو عمدہ لینے پر مجبور نہ کیا جائے یعنی جب دوسرے کے پاس کھوٹے سکے ہوں اور مقروض ان کھوٹے سکوں کی جگہ عمدہ سکے واپس کرے تو قرض خواہ اگر عمدہ لینے پر راضی نہیں بلکہ اپنے دیئے جیسے لینا چاہتا ہے تو قرض خواہ کو عمدہ سکے لینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ یہ امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا فتویٰ ہے۔ آج اسی پر فتویٰ ہے اور ہمارے آئمہ ثلاثہ کا قول یہ ہے کہ اسے اچھی چیز لینے پر مجبور کیا جائے گا۔ لیکن صحیح و مفتی بہ پہلی صورت ہے۔

(وسیلۃ الزفر، صفحہ 101، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

المسائل التي زادها ابن عابدين شامی

علامہ شامی نے جو امام زفر کے مزید مفتی مسائل بیان کئے مسج نیل ہیں

مسئلہ نمبر 13

کسی نے اپنی بیوی سے کہا: ”انت طالق واحدة فی ثنتين“ اور نیت ضرب کی

ہے تو دو طلاق واقع ہوں گی۔ علامہ شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) لکھتے ہیں ”اذا قال أنت

طالق واحدة في ثنتين وأراد الضرب تقع ثنتان عنده، ورجحه ابن الهمام والاتقاني في غاية البيان“ ترجمہ: جب کسی نے اپنی بیوی سے کہا: ”انت طالق واحدة في ثنتين“ اور اس کی نیت ضرب کی ہے تو امام زفر کے نزدیک دو طلاقیں واقع ہوں گیں۔ امام ابن ہمام نے اس کی ترجیح کو بیان کیا اور اتقانی نے اس کی ترجیح غایۃ البیان میں بیان کی۔ (وسيلة الزفر، صفحہ 7-106، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

مسئلہ نمبر 14

اپنی موت یا اپنے قتل کر دیئے جانے پر اپنے غلام کی آزادی کو معلق کرنا تدبیر ہے علامہ شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) لکھتے ہیں ”تعليق عتق العبد بقوله ان مت أو قتلت فأنت حر تدبير عنده، ورجحه ابن الهمام ومن بعده“ ترجمہ: غلام کی آزادی کو یوں معلق کرنا کہ اگر میں مر جاؤں یا مجھے قتل کر دیا جائے تو تو آزاد ہے۔ امام زفر کے نزدیک یہ تدبیر ہے۔ اس کی ترجیح امام ابن ہمام اور ان کے بعد والوں نے بیان کی۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 108، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

مسئلہ نمبر 15

امام زفر کے نزدیک اگر نکاح کو کسی وقت کے ساتھ خاص کیا کہ فلاں وقت تک تجھ سے نکاح کرتا ہوں تو اس کا وقت بیان کرنا فضول قرار پائے گا اور نکاح دائمی طور پر درست ہو جائے گا۔ علامہ شامی لکھتے ہیں ”النكاح المؤقت يصح عند زفر رحمه الله تعالى ويطل التوقيت، رجحه ابن الهمام بإهمال التوقيت“ ترجمہ: امام زفر کے نزدیک نکاح موقت صحیح ہے اس کی ترجیح امام بن ہمام نے وقت کے مہمل ہونے کے ساتھ

کی۔ (وسيلة الزفر، صفحہ 110، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

مسئلہ نمبر 16

درہم ودنانیز کا وقف کرنا جائز ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں ”وقف الدراہم والدنانیر یصح عند زفر“ ترجمہ: امام زفر کے نزدیک درہم ودنانیز کا وقف جائز ہے۔
(وسیلۃ الزفر، صفحہ 112، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

مسئلہ نمبر 17

رات کے اندھیرے میں کسی عورت کو اپنے بستر پر پایا اور اسے بیوی جان کر وطی کی تو حد جاری نہ ہوگی۔ ہاں! البتہ اگر دن کے وقت ایسا کیا تو حد جاری ہوگی۔ علامہ شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) لکھتے ہیں ”لو وجد فی بیتہ امرأة فی لیلۃ مظلمۃ ظنہا امرأۃ فوطئہا لا یحد، ولو نہاراً یحد۔ قال أبو الیث الکبیر: وبروایۃ زفر یؤخذ، کذا فی التاترخانیۃ“ ترجمہ: اگر کسی نے اپنے کمرے میں رات کے سخت اندھیرے میں کسی عورت کو اپنے بستر پر پایا اور اسے اپنی بیوی سمجھتے ہوئے وطی کی تو اس پر حد جاری نہ ہوگی۔ البتہ دن کے وقت یوں کیا تو حد جاری ہوگی۔ ابولیت کبیر کہتے ہیں کہ امام زفر کے اس موقف کو لیا جائے گا جیسا کہ تاتارخانیہ میں ہے۔

(وسیلۃ الزفر، صفحہ 113، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

مسئلہ نمبر 18

بکرنے قسم کھائی کہ وہ زید کو کوئی چیز عاریت کے طور پر نہ دے گا۔ پھر زید کے بھیجے ہوئے قاصد کو دے ڈالی تو قسم نہ ٹوٹے گی ”لو حلف لا یعیر زیداً کذا فدفع لعمامور زیداً لا یحت عند زفر، وهذا إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة، بأن قال ان زیداً یستعیر منک کذا، وإلا یحت کما فی النہر وغیرہ“ ترجمہ: اگر کسی نے قسم کھائی

کہ زید کو کوئی چیز عاریت پر نہیں دے گا۔ پھر زید کے مامور کو دے دی تو امام زفر کے نزدیک قسم نہ ٹوٹی۔ اور یہ اس وقت ہے کہ جب وہ قاصد کے طور پر آ کر چیز طلب کرے۔ یعنی یوں کہے: زید تجھ سے اس طرح کی چیز بطور عاریت کے مانگتا ہے۔ اگر یوں نہ کیا تو قسم ٹوٹ جائے گی جیسا کہ نہر میں ہے۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 16-115، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

مسئلہ نمبر 19

نماز کا وقت کم رہ گیا۔ وضو کرے گا تو نماز کا وقت جاتا رہے گا تو امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا فتویٰ یہ ہے کہ تیمم کیا جائے اور نماز پڑھ لی جائے، بعد میں وضو کے ساتھ دہرائی جائے وسیلۃ الزفر میں ہے ”جواز التیمم لمن خاف فوت الوقت إذا توضأ، لكن مع الأمر بالإعادة احتياطاً“ ترجمہ: وضو کرے تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو تیمم کرنا جائز ہے۔ ہاں! البتہ بعد میں نماز کا مع الوضوء اعادہ کرنا ہوگا۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 118، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت سیدی و مرشدی امام احمد رضا خان (علیہ رحمۃ الرحمن)

نے امام زفر کے اس فتویٰ پر رسالہ تحریر فرمایا جس کا نام ”الظفر لقول زفر“ یعنی وقت کی تنگی کے باعث جواز تیمم کے بارے میں امام زفر کے قول کی تقویت کا بیان۔ جسے قارئین کرام کی افادیت کے پیش نظر میں نے اس کتاب کا حصہ بنایا ہے۔ اس رسالہ کا خلاصہ و تسہیل یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان (علیہ رحمۃ الرحمن) نے امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے فتویٰ کی تقویت کو بیان کرنے میں یہ انداز اختیار فرمایا کہ آپ نے اس مسئلے کو دو جملوں میں تقسیم فرمایا یعنی دو انداز سے اس کی تقویت یا دو انداز سے اس پر

بحث فرمائی۔ پہلے جملے میں آپ (علیہ رحمۃ الرحمن) نے یہ ثابت کیا کہ امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے مذہب کے مطابق ہمارے آئمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ وقت کی تنگی کے باعث نماز کے لئے تیمم جائز ہے۔ آئمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ تیمم فقط اسی صورت میں جائز ہے کہ جب پانی ایک میل کے فاصلے پر ہو۔

جملہ ثانیہ یعنی دوسرے جملے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان (علیہ رحمۃ الرحمن) نے ایسے جزئیے یعنی عبارتیں اور مسائل بیان کئے ہیں جو امام زفر کے فتویٰ کی تائید کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بزرگوں کے حوالے دیئے ہیں جنہوں نے امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔

پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان (علیہ رحمۃ الرحمن) نے دوسرے جملے کے تحت سات دلیل ایسی دی ہیں جو امام زفر کے مذہب کی تقویت کو بیان کرتی ہیں۔ جن کی تلخیص و تسہیل کچھ یوں ہے کہ:-

پہلی دلیل: امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے فتویٰ کی تقویت میں یہ بیان فرمائی کہ تیمم کے حکم کی حکمت یہی ہے کہ نماز وقت کے اندر ادا کی جاسکے۔

دلیل دوم: نماز خوف کا جواز کہ کچھ سیاہی پہلے آدھی نماز پڑھ لیں، پھر وہ ڈیوٹی پر جائیں اور دوسرے آکر کچھ نماز پڑھیں اور واپس ڈیوٹی پر جائیں اب جنہوں نے کچھ پڑھی ہوئی تھی وہ واپس آئیں اور اپنی بقیہ نماز پوری کریں۔ پھر یہ نماز مکمل کر کے واپس جائیں اور دوسرے آکر مکمل کریں۔ حالانکہ نماز میں چلنا اور اس طرح ڈیوٹی کرنا شرعاً جائز نہیں لیکن اگر جنگ وغیرہ میں فوجیوں کو اس طرح اجازت نہ دیں تو نماز کا وقت گزر جائے

اور وہ نماز ہی مکمل نہ کر پائیں تو فوجیوں کی نماز کی ادائیگی وقت کے اندر ہو اس لئے شریعت نے انہیں آدھی نماز کے بعد ڈیوٹی کی اجازت دی، تو جب وقت میں نماز کی ادائیگی کا اعتبار ہے تو وقت کم ہونے کی صورت میں تیمم کے ساتھ نماز کا جواز بدرجہ اولیٰ ثابت ہوگا۔

تیسری دلیل: یہ ہے کہ کسی مسافر کے ہم سفر کے پاس اسی ہم سفر کا مملوکہ ڈول ہے اس نے مسافر سے کہا تم انتظار کرو میں پانی نکال لوں تو تمہیں ڈول دوں گا۔ تو مسافر کیلئے آخر وقت تک انتظار کر لینا مستحب ہے۔ اگر اس نے بلا انتظار تیمم کر لیا تو جائز ہے۔

چوتھی دلیل: یہ ہے کہ اگر برہنہ ہے اور اس کے رفیق (ہم سفر) کے پاس ایک کپڑا ہے اس نے کہا انتظار کرو میں نماز پڑھ کر تمہیں دوں گا، تو اس کیلئے آخر وقت تک انتظار کر لینا مستحب ہے۔ اگر انتظار نہ کیا اور برہنہ نماز پڑھ لی تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر یہ جائز ہے۔ حالانکہ یہاں اس بات کی امید ہے کہ کپڑے مل جائیں گے پھر بھی کہا کہ اگر اس نے بغیر کپڑوں کا انتظار کئے بغیر نماز پڑھ لی تو جائز ہے کہ عین ممکن کہ کپڑے اس وقت دے کہ جب وقت اس قدر باقی بچے کہ نماز ادا نہ ہو سکے تو جس کی نماز کا وقت گزر رہا ہے بھی جائز ہے کہ وہ پانی کی تلاش میں نہ نکلے بلکہ وقت کے اندر تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔

پانچویں دلیل: یہ ہے کہ جنازہ یا عید کی نماز ہو رہی ہو، اب اگر آپ وضو کی طرف جائیں، جنازہ یا عید کے ختم ہونے کا خوف ہے تو حکم دیا جاتا ہے کہ وہی فوراً تیمم کرے اور عید و جنازہ کی نماز میں شامل ہو جائے تو بیچ وقتی نماز میں جب وقت گزر جانے کا خوف ہو تو اس میں بھی اجازت دینا بالکل درست ہے۔

چھٹی دلیل: سخت سردی کے وقت کہ جب معلوم ہو کہ غسل یا وضو کر دینا کا تو مارا

جاؤں گا جس حصے کو پانی لگے گا بگڑ جائے گا، یا کسی کے ہاں مہمان تھے غسل کروں گا تو متہم کیا جاؤں گا حکم دیا جاتا ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے تاکہ وقت نہ نکل جائے لہذا نماز کے وقت کی تنگی میں بھی یہی حکم دینا بالکل معقول ہے۔

ساتویں دلیل: یہ ہے جیسا کہ میں کہتا ہوں، دشمن، چور، درندے، سانپ اور آگ کے خوف سے تیمم جائز قرار دیا گیا ہے جبکہ معلوم ہے کہ ان میں سے زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جو تھوڑی ہی دیر رہتی ہیں۔ آگ بھی گھنٹے دو گھنٹے میں بجھ جاتی ہے یا گزر جاتی ہے مگر یہ حکم نہ ہوا کہ انتظار کرے اگرچہ وقت نکل جائے۔

الظفر لقول زفر

وقت کی تنگی کے باعث جواز تیمم کے بارے میں امام زفر کے قول کی تقویت کا بیان

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم

سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں ”ثم اعلم ان جواز التيمم لخوف فوت الوقت قول الامام زفر رحمه الله تعالى على خلاف مذهب ائمتنا الثلاثة رضی اللہ تعالیٰ عنہم وقد وافقوه في رواية وشهدته فروع واختاره كبار وقوى دليله محققون وبيان ذلك في جمل“ واضح ہو کہ امام زفر ہمارے تینوں ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مذہب کے برخلاف وقت فوت ہونے کے اندیشہ سے تیمم کو جائز کہتے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ سے ایک روایت مذہب امام زفر کے موافق بھی آئی ہے۔ متعدد جزئیات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ کچھ بزرگوں نے اسے اختیار بھی کیا ہے اور کئی محققین نے ان کی دلیل کو تقویت بھی دی ہے۔ اس کا تفصیلی بیان جملہ کے

عنوان سے چند جملوں میں رقم کیا جاتا ہے:-

پہلا جملہ: الْجُمْلَةُ الْاُولَى مُوَافِقَةٌ اِثْمَتِنَا الثَّلَاثَةُ فِي رِوَايَةِ قَالِ الشَّامِي

هو قول زفر وفي القنية انه رواية عن مشائخنا بحراہ۔ ثم قال قد علمت من كلام القنية انه رواية عن مشائخنا الثلاثة رضى الله تعالى عنهم“ ترجمہ: جملہ اولیٰ ہمارے تینوں ائمہ کی ایک روایت مذہب امام زفر کے موافق آئی ہے اس سے متعلق علامہ شامی لکھتے ہیں: یہ امام زفر کا قول ہے اور قنیہ میں ہے کہ ہمارے مشائخ سے بھی ایک روایت میں یہی منقول ہے پھر علامہ شامی فرماتے ہیں: اس سے پہلے قنیہ کی عبارت سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ ہمارے تینوں مشائخ کی ایک روایت ہے۔

اقول: رحمه الله تعالى قد ابعد النجعة واتى بغير صريح فان لفظ

البحر عند قوله لالفوت جمعة قد قدمنا عن القنية ان التيمم لخوف فوت الوقت رواية عن مشائخنا والذي قدم عند قوله لبعده ميلا بعد ذكر فرع الكلة الاتى لا يخفى ان هذا مناسب لقول زفر لالقول ائمتنا فانهم لا يعتبرون خوف الفوت وانما العبرة للبعد كما قدمناه كذا في شرح منية المصلي لكن ظفرت بان التيمم لخوف فوت الوقت رواية عن مشائخنا ذكرها في القنية في مسائل من ابتلى ببليتين“ ترجمہ: میں کہتا ہوں: خدا اپنی رحمت سے علامہ کو نوازے تلاش مطلوب میں بہت دُور نکل گئے اور نقل وہ پیش کی جو صریح نہیں۔ اس لئے کہ ”لالفوت الجمعة“ (فوت جمعہ کے اندیشہ سے جواز تیمم نہیں) کے تحت بحر کے الفاظ یہ ہیں: ہم قنیہ کے حوالے سے پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ وقت نکل جانے کے اندیشہ سے جواز تیمم ہمارے مشائخ کی ایک روایت ہے اور اس سے پہلے جو ذکر کیا ہے وہ ان کی درج ذیل عبارت ہے جو لبعده

میں کے تحت کلمہ (پھر دانی یا اسی قسم کا خیمہ) سے متعلق آنے والے جزئیہ کو ذکر کرنے کے بعد لکھی ہے: پوشیدہ نہ رہے کہ یہ مسئلہ قول امام زفر سے مناسبت رکھتا ہے ہمارے ائمہ کے قول سے مناسبت نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک فوت وقت کے اندیشہ کا اعتبار نہیں۔ صرف دُوری کا اعتبار ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ منیۃ المصلیٰ کی شرح میں بھی ایسا ہی ہے لیکن مجھے یہ بیان بھی ملا کہ وقت نکل جانے کے اندیشہ سے جواز تیمم ہمارے مشائخ سے بھی ایک روایت میں آیا ہے۔ اسے قنیہ میں دو مصیبتوں میں مبتلا ہونے والے سے متعلق مسائل کے تحت بیان کیا ہے۔

”فالمعروف اطلاق مشائخنا علی من بعد الائمة رضی اللہ تعالیٰ عنہم نعم قد یستفاد من هذا الاستدراك ان مراده بمشائخنا الائمة الثلاثة والواضح سنداً والاجل معتمداً مافی الحلیة والغنیة عن المجتبی عن الامام شمس الائمة الحلوانی المسافر اذا لم یجد مکاناً طاهراً بأن کان علی الارض نجاسات وابتلت بالمطر واختلطت فان قدر علی ان یسرع المشی حتی یجد مکاناً طاهراً للصلاة قبل خروج الوقت فعل والا یصلی بالایماء ولا یعید ثم قال الحلوانی اعتبر ههنا خروج الوقت لجواز الایماء ولم یعتبره لجواز التیمم ثم وزفر سوی بینہما وقد قال مشائخنا فی التیمم انه یعتبر الوقت ایضاً والروایة فی هذا روایة له اذ لافرق بینہما والروایة فی فصل التیمم روایة فی هذا ایضاً قال الحلوانی فاذا فی المسالتین جمیعاً روایتان“ ترجمہ: یہ صریح اس لئے نہیں کہ معروف نے کہا کہ مشائخ کا لفظ ان حضرات کیلئے استعمال ہوتا ہے جو ائمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کے بعد آئے ہیں، ہاں! ان کے اس استدراک (لیکن مجھے یہ بیان بھی ملا الخ) سے یہ مستفاد

ہوتا ہے کہ ”ہمارے مشائخ“ کے لفظ سے وہ ائمہ ثلاثہ کو مراد لے رہے ہیں۔ سند کے لحاظ سے زیادہ واضح اور اعتماد کے لحاظ سے زیادہ جلیل القدر عبارت وہ ہے جو حلیہ اور غنیۃ میں مجتبیٰ سے، اور اس میں امام شمس الائمہ حلوانی سے منقول ہے: مسافر کو جب پاک جگہ نہ ملے اس طرح کہ زمین پر نجاستیں پڑی ہوئی تھیں اور زمین بارش سے بھیگ کر نجاستوں سے آلودہ ہوگئی تو اگر وہ یہ کر سکتا ہو کہ تیز چل کر ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں وقت نکلنے سے پہلے اسے نماز پڑھنے کیلئے کوئی پاک جگہ مل جائے گی تو ایسا ہی کرے ورنہ اشارے سے نماز ادا کر لے اور اس کا اعادہ اس کے ذمہ نہیں۔ پھر حلوانی فرماتے ہیں: جواز اشارہ کیلئے یہاں خروج وقت کا اعتبار فرمایا ہے اور وہاں جواز تیمم کیلئے اس کا اعتبار نہیں کیا اور امام زفر نے دونوں جگہ برابری رکھی اور ہمارے مشائخ نے تیمم کے بارے میں فرمایا ہے کہ وقت کا بھی اعتبار ہوگا اور اس (مسئلہ جواز اشارہ۔ مسافر) میں روایت کا ہونا اس (مسئلہ جواز تیمم) میں بھی روایت ہونا ہے کیونکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں اور مسئلہ تیمم میں روایت کا ہونا اس (مسئلہ مسافر) میں بھی روایت ہونا ہے۔ حلوانی فرماتے ہیں: تو دونوں ہی مسئلوں میں دو دور روایتیں ہوں گی۔

میں کہتا ہوں: ان کی عبارت اعتبار ہنا، ولم يعتبر (یہاں اعتبار فرمایا اور وہاں اعتبار نہ کیا) میں ضمیر امام محمد کیلئے ہے اور مسئلہ مسافر ہمارے ائمہ کا قول ہے تو اس مسئلہ میں ان سے روایت ہونا تیمم کے بارے میں بھی ان سے یہ روایت ہونا ہے کہ وقت نکل جانے کے اندیشہ سے بھی جائز ہے اور مسئلہ تیمم کہ حفظ وقت کے پیش نظر تیمم جائز نہیں یہ بھی ہمارے ائمہ کا قول ہے تو اس میں روایت ہونا مسئلہ مسافر میں بھی روایت ہونا کہ وہ اس جگہ سے چل کر نکل جائے اور وہاں نماز نہ پڑھے اگرچہ وقت جاتا رہے۔ اس تفصیل سے ظاہر

ہوا کہ دونوں ہی مسئلوں میں ان کے دو قول ہیں، یہ بات الگ ہے کہ مسئلہ مسافر حکم اجازت سے مشہور ہو گیا اور مسئلہ یتیم حکم ممانعت سے شہرت پا گیا ہمارے ائمہ ثلاثہ کی موافقت سے امام زفر کے قول کی تقویت پر دستیاب ہونے والی یہ سب سے زیادہ قوی سند ہے۔

دوسرا جملہ: ”الجملة الثانية فروع التشييد واختيار الكبراء قال

في الحلية في بيان قول زفر قد نقل الزاهد في شرحه هذا الحكم عن الليث بن سعد وقد ذكر ابن خلکان انه رأى في بعض المجاميع ان الليث كان حنفی المذهب واعتمد هذا صاحب الجواهر المضیئة في طبقات الحنفية فذكره فيها منهم“ ترجمہ: جملہ ثانیہ تائیدی جزئیات اور بزرگوں کے قول امام زفر اختیار کرنے سے متعلق ہے۔ حلیہ میں قول امام زفر کے بیان میں ہے: زاہدی نے اپنی شرح میں یہ حکم امام لیث بن سعد سے نقل کیا ہے۔ ابن خلکان نے ذکر کیا ہے کہ بعض تالیفات میں انہوں نے یہ دیکھا کہ امام لیث حنفی المذہب تھے، صاحب الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیہ نے اس پر اعتماد کیا اور اپنی کتاب میں امام لیث کا بھی ذکر کیا۔ قال الشامی ثم رأيت منقولا عن أبي نصر بن سلام وهو من كبار الاثمة الحنفية قطعاً“ ترجمہ: شامی فرماتے ہیں: پھر میں نے دیکھا کہ یہ قول ابو نصر بن سلام سے بھی منقول ہے جو بلاشبہ کبار ائمہ حنفیہ میں ہیں۔

میں کہتا ہوں: وفي جامع الرموز التقييد بالميل يدل على ان في الاقل لم یتیمم وان خاف خروج الوقت كما في الارشاد لكن في التوازل انه یتیمم حینئذ يدل في الخلاصة لو لم يعلم ان بينه وبين الماء ميلا او اقل او اكثر ولكن خرج ليحتطب ولم يجد الماء ان كان بحال لو ذهب الى الماء خرج الوقت

تیمم فی آخر الوقت هكذا فی التوازل“ ترجمہ: اقول: جامع الرموز میں ہے: میل کی قید یہ بتاتی ہے کہ اس سے کم دوری ہو تو تیمم کی اجازت نہیں اگرچہ وقت نکل جانے کا اندیشہ ہو، جیسا کہ ارشاد میں ہے لیکن نوازل میں ہے کہ ایسے وقت میں تیمم کر لے بلکہ خلاصہ میں ہے کہ اگر یہ پتا نہ ہو کہ اس کے اور پانی کے مابین ایک میل کا فاصلہ ہے کہ یا کم و بیش ہے لیکن (جنگل سے) لکڑی لانے کیلئے نکلا اور اسے پانی نہ ملا اگر ایسی حالت ہو کہ پانی تک جائے تو وقت نکل جائے گا تو وہ آخر وقت میں تیمم کر لے۔ ایسا ہی نوازل میں ہے ”وفی الحلیۃ اطلق الفقیہ ابو اللیث فی خزائن الفقہ جواز التیمم اذا کان بینہ و بین الماء مسافة لا یقطعها فی وقت الصلاة ماہ و فیہا عن المجتبی والقنیۃ و فی الہندیۃ عن الزاہدی و الکفایۃ کلہما عن جمع العلوم لہ التیمم فی کلة لخوف البق او مطر او حر شدید ا“ ترجمہ: اور حلیہ میں ہے: فقیہ ابو اللیث نے خزائن الفقہ میں اس صورت میں تیمم کو مطلقاً جائز کہا ہے جب اس کے اور پانی کے مابین اتنی مسافت ہو جسے وقت نماز کے اندر طے نہیں کر سکتا۔ اور حلیہ میں بحوالہ مجتبی وقنیہ اور ہندیہ میں بحوالہ زاہدی و کفایہ اور ان سب میں بحوالہ جمع العلوم یہ ہے: ”مچھر یا بارش یا سخت گرمی کا اندیشہ ہو تو کلمہ (مچھردانی جیسے چھوٹے خیمہ) میں تیمم کر سکتا ہے“ ”وفیہا و فی البحر عن المبتغی بالغین“ کان فی کلة جاز تیممہ لخوف البق او مطر او حر شدید ان خاف فوت الوقت و فیہا عن القنیۃ عن نجم الاثمة البخاری لو کان فی سطح لیل و فی بیتہ ماء لکنہ یخاف الظلمۃ ان دخل البیت لا یتیمم اذا لم ینحف فوت الوقت قال و فیہ اشارۃ الی انہ اذا خاف الوقت تیمم“ ترجمہ: حلیہ اور بحر میں مبتغی (غین سے) کے حوالہ سے ہے: جو کسی مچھردانی جیسے محفوظ چھوٹے خیمہ میں ہو تو مچھر

یابارش یا سخت گرمی کے اندیشہ سے اس کیلئے تیمم جائز ہے اگر وقت نکل جانے کا خطرہ ہو اور حلیہ میں بحوالہ قنیه نجم الائمه بخاری سے نقل ہے: اگر رات کو چھت پر ہو اور گھر کے اندر پانی ہے لیکن گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو تاریکی کا خطرہ درپیش ہے ایسی صورت میں اگر وقت نکلنے کا اندیشہ نہ ہو تو تیمم نہ کرے فرمایا: اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اگر وقت نکلنے کا اندیشہ ہو تو تیمم کرے "وفی البحر عنہا اعنی القنیۃ بلفظ تیمم ان خاف فوت الوقت ولم یعزہ لنجم الائمه بل جعلہ تفریعا علی الروایۃ عن مشائخنا رضی اللہ تعالیٰ عنہم" ترجمہ: بحر الرائق میں قنیه کے حوالے سے یہ الفاظ نقل ہیں: اگر وقت نکل جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر لے۔ بحر نے اسے نجم الائمه کی طرف منسوب نہ کیا بلکہ اسے مشائخ مذہب (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کی روایت پر تفریع قرار دیا "قال فی الحلیۃ بعد ایرادہا ہذا کلہ فیما یظہر تفریع علی مذہب زفرانہ لا عبرۃ عندہ للبعد بل للوقت بقاء و خروجہ قال ولعل ہذا من قول ہؤلاء المشائخ اختیار لقول زفران الحجة له علی ذلك قویۃ" ترجمہ: حلیہ میں عبارات بالا نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے: بظاہر یہ سب امام زفر کے مذہب پر تفریع ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک دوری کا اعتبار نہیں بلکہ وقت باقی رہنے اور نکل جانے کا اعتبار ہے۔ فرمایا: شاید ان مشائخ کے یہ اقوال اس بنیاد پر ہیں کہ انہوں نے امام زفر کا قول اختیار کیا ہے کیونکہ اس مسئلہ سے متعلق امام زفر کی دلیل قوی ہے۔ بل قد ذکر الشامی ان الفتوی فی ہذا علی قول زفر وانہ احد المواضع العشرین الی یفتی فیہا بقولہ ذکرہا فی باب النفقة کتاب الطلاق ونظمہا نظمًا حسنًا قال فیہ وبعد فلا یفتی بما قالہ زفر سوی صور عشرین تقسیمہا بحلی لیس خاف فوت الوقت یناغ تیمم ولكن لیحتط بالاعادة غاسلا

ترجمہ: بلکہ علامہ شامی نے تو یہ ذکر کیا ہے کہ اس بارے میں فتویٰ امام زفر کے قول پر ہے اور یہ ان بیس مقامات میں سے ایک ہے جن میں امام زفر کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے، جنہیں علامہ شامی نے کتاب الطلاق باب النفقہ میں ذکر کیا ہے اور بڑی خوش اسلوبی سے نظم کیا ہے۔ نظم میں یہ ہے (حمد و صلوٰۃ کے بعد) امام زفر کے قول پر فتویٰ نہ دیا جائیگا مگر صرف بیس صورتوں میں جن کی تقسیم روشن ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کیلئے جسے وقت فوت ہونے کا اندیشہ ہو تیمم جائز ہے لیکن احتیاطاً پانی سے طہارت کر کے اعادہ کرے۔

پہلی دلیل: ”اولھا: مقال المحقق علی الاطلاق فی فتح القدیر لہ

ان التیمم لم یشرع الا لتحصيل الصلاة فی وقتها فلم یلزمہ قولہم ان الفوات الی خلف کلا فوات“ ترجمہ: دلیل اول: محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر میں فرمایا ہے: امام زفر کی دلیل یہ ہے کہ تیمم اسی لئے تو مشروع ہوا ہے کہ نماز کی ادائیگی وقت کے اندر کی جاسکے لہذا اس جواب سے ان پر الزام نہیں آتا کہ نماز کا نائب کی جانب فوت ہونا، فوت نہ ہونے کی طرح ہے۔ واجیب عنہ اولاً کما ابدی البحران جوازہ للمسافر بالنص لا لخوف الفوت بل لاجل ان لا تضاعف علیہ الفوات ویخرج فی القضاء“ ترجمہ: جواب۔ اولاً: جیسا کہ بحر نے اظہار کیا: مسافر کیلئے ”نص سے“ تیمم کا جواز فوت وقت کے اندیشہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے ذمہ فوت شدہ نمازیں زیادہ نہ ہوں اور قضاء میں اسے زحمت نہ ہو۔

میں کہتا ہوں: ”نص سے“ جواز کہنے کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے کہ نص تعبدی نہیں

(بلکہ قیاسی اور معطل ہے) جیسا کہ ان کی آخری عبارت سے خود ہی مستفاد ہے اگر ایسا ہوتا تو نماز جنازہ اور نماز عید کیلئے بھی تیمم جائز نہ کہتے کیونکہ نص تو صرف مریض اور مسافر کے

بارے میں آئی ہے۔

اما التعلیل **فاقول** اما تجیزونه لبعء الماء میلا ولوفی جهة مسیرہ فانی
 فیہ تضاعف الفوائت وایضا خوف التضاعف ان کان ففی الاسفار البعیدة
 ولیس السفر فی الکریمة سفر القصر بل یشمل من خرج من المصر و
 لولا حطاب او احتشاش او طلب دابة کما افاده فی الخانیة والمنية وقال فی
 الهدایة والعنایة جواز التیمم لمن کان خارج المصر وان لم یکن مسافرا اذا
 کان بینہ و بین الماء میل "ترجمہ: اب انہوں نے جو علت جواز بیان کی ہے اس پر کلام کیا
 جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں: کیا آپ حضرات اس کے قائل نہیں ہیں کہ پانی ایک میل کی
 دوری پر ہو تو تیمم جائز ہے؟ اگرچہ پانی اس کی سمت سیری میں ہو۔ اس میں فوت شدہ
 نمازوں کی زیادتی کہاں ہے؟ یہ بات بھی ہے کہ اگر زیادتی فوائت کا اندیشہ ہے تو دور دراز
 سفر میں ہے مگر آیت کریمہ میں جو سفر مذکور ہے اس سے خاص سفر قصر مراد نہیں بلکہ یہ حکم
 ہر اس شخص کو شامل ہے جو شہر سے باہر ہوا اگرچہ لکڑی کاٹنے، یا گھاس لانے، یا سوار کا جانور
 ڈھونڈنے ہی کیلئے نکلا ہو، جیسا کہ خانیہ اور منیہ میں افادہ فرمایا ہے۔ اور ہدایہ و عنایہ میں
 ہے: تیمم کا جواز ہر اس شخص کیلئے ہے جو شہر کے باہر ہوا اگرچہ مسافر نہ ہو بشرطیکہ اس کے اور
 پانی کے درمیان ایک میل کا فاصلہ ہو۔

وقد نقلتم عن الخانیة ان قلیل السفر وکثیرہ سواء فی التیمم والصلوة
 علی الدابة خارج المصر انما الفرق بین القلیل و الکثیر فی ثلثة فی قصر الصلوة
 والافطار ومسح الخفین و اذا ثبت ذلك ثبت ان لیس تشریعہ الا لاحراز
 الوقت "خود آپ ہی نے خانیہ سے یہ عبارت نقل کی ہے کہ بیرون شہر تیمم اور سواری پر

ادائے نماز کے معاملہ میں قلیل و کثیر سفر سب برابر ہیں۔ قلیل و کثیر کے درمیان فرق صرف تین مسائل میں ہے (1) نماز میں قصر کرنا (2) روزہ قضا کرنا (3) موزوں پر مسح کی مدت کم و بیش ہونا۔ جب یہ ثابت ہے تو یہ بھی ثابت ہے کہ تیمم کی مشروعیت تحفظ وقت ہی کیلئے ہوئی ہے۔

وثانیا: التقصير جاء من قبله فلا يوجب الترخيص عليه - فتح۔

”ثانیا: تقصیر کو کوتاہی خود اس کی جانب سے ہوئی تو یہ اس کیلئے موجب رخصت نہ ہو سکے گی۔

اقول: تقریرہ سلمنا ان التيمم لحفظ الوقت لكن انما يستحقه من ليس

ضيق الوقت من قبله كمن خاف عدوا او مرضا فانه ان ينتظر يذهب الوقت من

دون تفريط منه فرخص له الشرع في التيمم كيلا يفوته الوقت اما هذا فقد

قصر واخر بنفسه حتى ضاق الوقت عن الطهارة والصلاة فلا يستحق الترفيه

بالترخيص“ میں کہتا ہوں: اس جواب کی تقریر اس طرح ہوگی، ہمیں تسلیم ہے کہ تیمم وقت

کے تحفظ کی خاطر ہے لیکن جو ایسا ہو کہ وقت کی تنگی خود اس کی طرف سے نہ پیدا ہوئی وہی اس

کی رخصت کا مستحق ہوگا مثلاً وہ شخص جسے کسی دشمن یا مرض کا خطرہ ہو کہ وہ اگر انتظار کرتا ہے تو

وقت نکل جائے گا اور خود اس کی جانب سے کوئی کوتاہی نہیں تو اس کیلئے شریعت نے تیمم کی

رخصت دی ہے تاکہ وقت فوت نہ ہو لیکن اس شخص نے تو کوتاہی کی ہے اور خود ہی نماز یہاں

تک مؤخر کر دی کہ وقت میں طہارت اور نماز کی گنجائش نہ رہی تو ایسا شخص رخصت کی

آسائش پانے کا حقدار نہیں۔

ورده في الفتح بانه انما يتم اذا اخر لالعذر، اورده في الفتح بانه انما يتم

اذا اخر لالعذر ترجمہ: فتح القدیر میں اس جواب کو ان الفاظ سے رد کر دیا ہے کہ یہ جواب

اسی وقت تام ہوگا جب اس نے بغیر کسی عذر کے نماز مؤخر کر دی ہو۔

اقول: ای مع ان الحکم عام عند الفريقین و کیف یقال جاء التقصیر من قبله فیمن نام فما استیقظ الا وقد ضاق الوقت عن الطهارة بالماء و اداء الفرض وهذا نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قائلًا لیس فی النوم تفريط انما التفريط فی الیقظة رواہ مسلم عن ابی قتادة رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کذا من نسی صلاة ولم یتذکر الا عند ضیق الوقت و قد رفع عن امته صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الخطاء والنسیان فلا تقصیر من ناس "میں کہتا ہوں: مقصد یہ ہے کہ حکم تو (بلا عذر تاخیر کرنے والے اور عذر کی وجہ سے تاخیر کرنے والے) دونوں ہی کے لئے فریقین کے نزدیک عام ہے (جس کے یہاں جواز ہے تو دونوں کیلئے، جس کے یہاں عدم جواز ہے تو دونوں کیلئے) اب وہ شخص جو سو گیا، بیدار ہوا تو ایسے ہی وقت کہ پانی سے طہارت اور ادائے فرض کی گنجائش نہیں اس کے بارے میں کیسے کہا جاسکتا ہے کہ خود اسی کی جانب سے کوتاہی ہوئی جب کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) فرما رہے ہیں: نیند (کی صورت) میں کوتاہی نہیں کوتاہی تو بیداری (کی صورت) میں ہے۔ یہ حدیث امام مسلم نے ابوقتادہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت کی۔ ایسے ہی وہ شخص جسے نماز کا خیال نہ رہا یا آئی تو وقت تنگ ہو چکا ہے۔ خطا و نسیان تو نبی کریم کی امت سے اٹھالیا گیا ہے تو نسیان والے کی جانب سے بھی کوتاہی نہیں۔ بل اقول: مثلیا الرخص الالهية مباحة عندنا للمطیع والعاصی فمن سافر لمعصية حل له الفطر بل وحب عليه القصر ومن اجنب بالزنا والعياذ باللہ تعالیٰ ولم یجد ماء حازله التيمم بل افترض علیه "ترجمہ: بلکہ میں کہتا ہوں: مثلیا (دوسرے نمبر پر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ خدا کی دی ہوئی رخصتیں ہمارے

نزدیک مطیع و عاصی دونوں ہی کیلئے عام ہیں جو کسی معصیت کیلئے سفر کر رہا ہے اس کیلئے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے بلکہ اس کے ذمہ نماز قصر کرنا واجب ہے اور جسے زنا کی وجہ سے۔ (والعیاذ باللہ تعالیٰ) جنابت ہوئی اور پانی نہ پاسکا اس کیلئے بھی تیمم جائز بلکہ فرض ہے۔

”ثم رأيت تلميذه المحقق الحلبي في الحلية نقل كلامه وايداه وبحث في التأخير بلا عذر بعين مابحثت والله الحمد قال لكن المذهب ان المطيع والعاصي في الرخص سواء“ ترجمہ: پھر میں نے دیکھا کہ امام ابن ہمام کے شاگرد محقق حلبي نے حلیہ میں ان کی عبارت نقل کر کے اس کی تائید کی ہے اور ”تاخیر بلا عذر“ سے متعلق بعینہ یہی بحث کی ہے جو میں نے کی ولله الحمد ان کے الفاظ یہ ہیں: لیکن مذہب یہ ہے کہ رخصتوں کے معاملہ میں مطیع و عاصی یکساں ہیں۔

وافاد فائدة اخرى فقال لو قيل تأخير الى هذا الحد عذر جاء من قبل غير صاحب الحق لقل فينبغي ان يقال يتيمم ويصلي ثم يعيد بالوضوء كمن لم يقدر على الوضوء من قبل العباد“ ترجمہ: بلکہ انہوں نے ایک اور افادہ فرمایا ہے، لکھتے ہیں: اگر یہ کہا جائے کہ اس حد تک تاخیر ایسا عذر ہے جو غیر صاحب حق کی جانب سے رونا ہوا تو اس کے جواب میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو کر کے اعادہ کرے جیسے وہ شخص جو بندوں کی جانب سے پیدا ہونے والے کسی عذر کی وجہ سے وضو پر قادر نہ ہو۔ اقول: هذا لا مدخل له في البحث من قبل احد من الفريقين فليس لاحدهما ان يبدء به او يعيد اما اثمتا فلا تهم لا يقولون بالتيمم واما زفر فانه لا يقول بالاعادة بل كان حقه ان يقرر هكذا ليكون مثلنا لما في الفتح ان غاية ما قلتم ان التقصير من قبله ان تأمروه بالتيمم ثم الاعادة كما هو حکم کل

عذر جاء من قبل العباد لان تحجروا عليه التيمم رأساً“ ترجمہ: میں کہتا ہوں فریقین میں سے کسی جانب سے بحث میں اس کلام کا کوئی دخل نہیں، اس لئے یہ کسی کا قول نہیں کہ پہلے تیمم کر لے، پھر پانی سے اعادہ کرے۔ ہمارے ائمہ کے نزدیک اس لئے کہ وہ یہاں جواز تیمم کے قائل ہی نہیں اور امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے نزدیک اس لئے کہ وہ اعادہ کے قائل نہیں۔ اس مقصد کی تقریر اس طرح ہونی چاہئے تاکہ فتح کی عبارت سے متعلق یہ تیسرا کلام ہو جائے کہ آپ نے جو فرمایا کہ کوتاہی خود اس کی جانب سے ہوئی تو اس پر زیادہ سے زیادہ یہ ہونا چاہئے کہ آپ حکم یہ دیں کہ وہ تیمم کر لے پھر اعادہ کرے جیسا کہ یہ ہر اس عذر کا حکم ہے جو بندوں کی جانب سے رونما ہوا ہو یہ نہیں ہونا چاہئے کہ اسے آپ تیمم سے بالکل ہی روک دیں۔

دوسری دلیل: وثانیہا: هذه صلاة الخوف ما شرعت الا لحفظ

الوقت“ دلیل دوم: یہ نماز خوف ہے جس کی مشروعیت تحفظ وقت کیلئے ہی ہوئی ہے۔
واجاب عنه في البحر بان صلاة الخوف للخوف دون خوف الفوت“ ترجمہ: اس کا جواب بحر میں یہ دیا ہے کہ: نماز خوف تو خوف کی وجہ سے ہے، فوت وقت کے اندیشہ سے نہیں ہے۔

اقول: سبحن الله ما كان الخوف ليوجب الاتيان بها في الوقت مع ارتكاب المنافي بل كانوا بسبيل من تأخيرها الى ان يطمئنوا كما قلتم في بحر كم في عدة افروع“ ترجمہ: اقول: سبحان اللہ۔ خوف کی حیثیت اتنی بڑھی ہوئی نہیں کہ منافی نماز کے ارتکاب کے ساتھ وقت کے اندر نماز کی ادائیگی لازم کر دے بلکہ ان کیلئے امن و اطمینان ہونے تک تاخیر کی گنجائش تھی جیسا کہ بحر کے اندر متعدد جزئیات میں خود آپ

ہی اس کے قائل ہیں۔ چند جزئیات درج ذیل ہیں:-

منہا: ازدحم جمع علی بشر لا یمکن الاستقاء منہا الا بالمناوبة لضيق الموقف اول اتحاد الة الاستقاء ونحو ذلك وعلم انها لاتصیر الیہ الا بعد خروج الوقت و یصبر عندنا لیتوضأ بعد الوقت وعند زفر یتیم "ترجمہ: جزئیہ: کسی کنویں پر ایک ہجوم جمع ہے اور باری باری پانی ٹکانے کے سوا کوئی گنجائش نہیں اس لئے کہ کھڑے ہونے کی جگہ تنگ ہے یا ڈول رسی ایک ہی ہے یا ایسا ہی کوئی اور سبب ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جب تک اس کی باری آئے گی وقت نکل جائیگا تو ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ انتظار کرے تاکہ وقت کے بعد وضو کر سکے، اور امام زفر کے نزدیک یہ حکم ہے کہ تیمم کر لے۔

ومنہا: جمع من العراة لیس معہم الا ثوب یتناولونہ وعلم ان النوبة لاتصل الیہ الا بعد الوقت فانه یصبر ولا یصلی عاریا ترجمہ: جزئیہ: چند آدمی برہنہ ہیں جن کے پاس (ستر عورت کے قابل) ایک ہی کپڑا ہے جسے باری باری باندھ کر نماز ادا کرتے ہیں، ان میں سے کسی کو معلوم ہے کہ جب تک اس کی باری آئے گی وقت نکل جائے گا تو وہ انتظار کرے اور برہنہ نماز نہ پڑھے۔

"ومنہا: اجتماع فی سفینة او بیت ضیق و لیس هناك موضع یسع ان یتصلی قائما لا یصلی قاعدا بل یصبر ویصلی قائما بعد الوقت ترجمہ: جزئیہ: کسی کشتی یا تنگ کوٹھڑی میں لوگ جمع ہیں جہاں اتنی جگہ نہیں کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے تو وہ بیٹھ کر نہ پڑھے بلکہ انتظار کرے اور وقت گزر جانے کے بعد کھڑے ہو کر نماز ادا کرے۔

"ومنہا: معہ ثوب نجس وماء لغسلہ ولكن لو غسل خرج الوقت لزوم غسلہ وان خرج" ترجمہ: جزئیہ: کسی کے پاس ایک ناپاک کپڑا ہے اور اس کے دھونے

کیلئے پانی بھی موجود ہے لیکن اگر کپڑا دھونے میں لگتا ہے تو نماز کا وقت نکل جائیگا اس پر لازم ہے کہ کپڑا دھوئے (اور پاک کپڑے سے ہی نماز ادا کرے) اگرچہ وقت نکل جائے

”ومنہا کذالو کان مریضا عاجزا عن القيام واستعمال الماء فی الوقت ویغلب علی ظنہ القدرۃ بعدہ ای یؤخر ولا یصلی فی الوقت“ ترجمہ: جزئیہ: کوئی ایسا مریض ہے جو بروقت کھڑا ہونے پر قادر نہیں، یا ایسا بیمار ہے کہ ابھی وقت نماز میں پانی نہیں استعمال کر سکتا اور ظن غالب ہے کہ وقت نکل جانے کے بعد (کھڑے ہونے یا پانی استعمال کرنے پر) قدرت ہو جائیگی، تو وہ حصول قدرت تک نماز مؤخر کرے اور وقت کے اندر (بلا قیام یا تیمم سے) نماز نہ پڑھے۔

”ومنہا وعدہ صاحبہ ان یعطیہا لاناۃ فرع علیہ محمد انہ ینتظر وان خرج الوقت لان الظاہر الوفاء بالعہد فکان قادرا علی الاستعمال ظاہرا“ ترجمہ: جزئیہ: کسی سے اس کے ساتھی نے برتن دینے کا وعدہ کیا۔ اس پر امام محمد نے یہ تفریع کی ہے کہ انتظار کرے اگرچہ وقت نکل جائے اس لئے کہ ظاہر یہی ہے کہ وہ وعدہ وفا کرے گا تو ظاہر ا وہ استعمال پر قادر ہے۔

”ومنہا کذا اذا وعد الکاسی العاری ان یعطیہ الثوب اذا فرغ من صلاتہ لم تحزہ الصلاة عریانا لما قلنا نقلتم ہذین عن البدائع والبواقی عن التوشیح ولکن المولیٰ سبحنہ وتعالیٰ لم یرض لہم بتفویتہا عن وقتہا وشرع لہم صلاة الخوف فما کان الا لحفظ الوقت“ ترجمہ: جزئیہ: اسی طرح کپڑے والے نے برہنہ سے وعدہ کیا کہ میں نماز سے فارغ ہو کر تجھے کپڑا دے دوں گا تو اسے برہنہ نماز پڑھنا جائز نہیں، وجہ وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ آخری دو جزئیے آپ نے بدائع سے نقل کئے، باقی

تو شیخ سے۔ (ان جزئیات کی روشنی میں خوف والوں کا بھی یہی حکم ہونا چاہئے تھا کہ وہ زوال خوف کا انتظار کریں اگرچہ وقت نکل جائے) لیکن مولیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کیلئے نماز فوت کرنا پسند نہ کیا اور نماز خوف مشروع فرمائی تو یہ نماز تحفظ وقت ہی کیلئے تو ہوئی۔

تیسری اور چوتھی دلیل: ثم اقول: الفرعان الاخيران عن محمد

والیہ عزاهما فی البدائع والحکم فیہما عند امامنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ یصلی فی الوقت متیمما او عاریا لان القدرة علی ماسواء الماء لا یتثبت عنده بالاباحة کما سیأتی“ ترجمہ: ثم میں کہتا ہوں: (پھر میں کہتا ہوں) آخری دونوں جزئیے امام محمد سے منقول ہیں اور بدائع میں ان ہی کی طرف انہیں منسوب کیا ہے ہمارے امام اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے نزدیک دونوں مسئلوں میں حکم یہ ہے کہ وہ وقت کے اندر تیمم سے یا برہنہ نماز پڑھ لے اس لئے کہ ان کے نزدیک پانی کے علاوہ چیزوں پر اباحت سے قدرت ثابت نہیں ہوتی جیسا کہ عنقریب اس کا بیان آ رہا ہے۔

(قال فی الخانیة مع رفیقہ دلو مملوک رفیقہ قال انتظر حتی استقی الماء ثم ادفعه الیک فالمستحب له ان ينتظر الی اخر الوقت فان تیمم ولم ينتظر جاز و کذا لو کان عریانا ومع رفیقہ ثوب فقال له انتظر حتی اصلی ثم ادفعه الیک یستحب له ان ينتظر الی اخر الوقت فان لم ينتظر و صلی عریانا جاز فی قول ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولو کان مع رفیقہ ماء یکفی لهما فقال انتظر حتی افرغ من الصلاة ثم ادفعه الیک لزمه ان ينتظر وان خاف خروج الوقت ولو تیمم ولم ينتظر لایجوز فالاصل عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فی المملوک لا یتثبت القدرة بالبذل والاباحة وفي الماء یتثبت القدرة

بالإباحة۔ اقول: والسجدة الثانية محل الاستثناء من الأولى لان الكلام في ماء مملوك واللہ تعالیٰ اعلم منه غفرلہ “ ترجمہ: خانیہ میں ہے: کسی مسافر کے ہم سفر کے پاس اسی ہم سفر کا مملوکہ ڈول ہے اس نے مسافر سے کہا تم انتظار کرو میں پانی نکال لوں تو تمہیں ڈول دوں گا۔ تو مسافر کیلئے آخر وقت تک انتظار کر لینا مستحب ہے۔ اگر اس نے بلا انتظار تیمم کر لیا تو جائز ہے اسی طرح اگر برہنہ ہے اور اس کے رفیق کے پاس ایک کپڑا ہے اس نے کہا انتظار کرو میں نماز پڑھ کر تمہیں دوں گا، تو اس کیلئے آخر وقت تک انتظار کر لینا مستحب ہے اگر انتظار نہ کیا اور برہنہ نماز پڑھ لی تو امام ابوحنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے قول پر یہ جائز ہے اور اگر رفیق سفر کے پاس اتنا پانی تھا جو دونوں کو کافی ہوتا اس نے کہا انتظار کرو میں نماز سے فارغ ہو جاؤں تو تمہیں پانی دوں گا، اس صورت میں اس پر انتظار کرنا لازم ہے اگرچہ وقت نکل جانے کا اندیشہ ہو اگر بلا انتظار تیمم کر لیا تو جائز نہیں اور امام ابوحنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے نزدیک اصل ضابطہ یہ ہے کہ بذل و اباحت سے مملوک میں قدرت ثابت نہیں ہوتی، اور پانی میں اباحت سے قدرت ثابت ہو جاتی ہے۔ اقول: دوسرا جملہ پہلے جملہ سے استثناء کے طور پر ہے اس لئے کہ گفتگو مملوک پانی ہی کی ہے (تو معنی یہ ہوا کہ مملوک چیزوں میں اباحت سے قدرت ثابت نہیں ہوتی مگر مملوک پانی میں اباحت سے قدرت ثابت ہو جاتی ہے۔ محمد احمد)

اقول: ”وهذا ايضا من مؤيدات زفر اذلو لاحفظ الوقت لأمر بالتأخير

لاسماع الوعد فهذا ثالث دلائله ورابعها“ ترجمہ: میں کہتا ہوں: (میں کہتا

ہوں) اس سے بھی امام زفر کے مذہب کی تائید ہوتی ہے اس لئے کہ اگر تحفظ وقت ملحوظ نہ

ہوتا تو تاخیر کا حکم ہوتا خصوصاً اس صورت میں جبکہ کسی نے وعدہ کر لیا ہے تو یہ ان کی تیسری

اور چوٹی دلیل ہوئی۔

”اما الفرع الخامس والسادس“ ترجمہ: اب جزئیہ 5-6 کو دیکھئے ”فاقول:

لا اری ان یکون المذهب فیہ الامر بتفویت الصلاة کیف وان الطاعة بحسب

الاستطاعة“ ترجمہ: میں کہتا ہوں: میں نہیں سمجھتا کہ اس صورت عجز میں نماز فوت کرنے کا

حکم ہمارے مذہب میں ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ طاعت بقدر استطاعت ہی لازم ہوتی

ہے ”قال ربنا تبارک وتعالی فاتقوا اللہ ما استطعتم ولا ينظر فیہا الا الی الحالة

الراہنة الا ترى ان راجی الماء اخر الوقت لیس علیہ التأخیر بل له ان یصلی الان

متیمما“ ترجمہ: ہمارے رب تبارک وتعالیٰ کا ارشاد ہے: ”تواللہ سے تم ڈرو جہاں تک تمہیں

استطاعت ہو اور استطاعت کے معاملہ میں موجودہ حالت پر ہی نظر کی جائے گی۔ دیکھئے!

اگر کسی کو آخر وقت میں پانی ملنے کی امید ہے تو اس پر یہ لازم نہیں کہ نماز مؤخر کرے بلکہ وہ

اسی وقت تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ”وقد قال فی الدر (امرہ الطیب بالاستلقاء

لبزغ الماء من عینہ صلی بالایماء لان حرمة الاعضاء کحرمة النفس ومعلوم

ان الطیب لایأمرہ بالسکون الامدة قليلة وربما لا تزد علی یوم وليلة فامروا ان

یؤمی لا ان یؤخر فہذہ الفروع الاربعة الجواب الصواب فیہا علی مذهب

امامنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ یصلی کما قدر فی الوقت ولا یعید“ ترجمہ: درمختار

میں ہے: آنکھ کا آپریشن کرنے اور پانی نکالنے کی وجہ سے طیب نے بیمار کو حکم دیا کہ چت

لیٹا رہے تو وہ اشارہ سے نماز پڑھے اس لئے کہ حرمتِ اعضاء بھی حرمتِ جان کی طرح ہے

یہ معلوم ہے کہ طیب زیادہ زمانہ تک حرکت کی ممانعت نہیں رکھتا بلکہ عموماً قلیل مدت تک جو

ایک شبانہ روز سے زیادہ نہیں ہوتی پرسکون رہنے کا حکم دیتا ہے اس کے باوجود فقہاء نے

اسے اشارہ سے نماز پڑھ لینے کا حکم دیا یہ نہ فرمایا کہ (اجازتِ حرکت و قیام تک) نماز مؤخر کرے تو ان چاروں جزئیات میں ہمارے امام اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے مذہب پر حکم صحیح یہ ہوگا کہ جس طرح بھی اسے قدرت ہے ویسے ہی وہ وقت کے اندر نماز ادا کرے اور بعد وقت اس کا اعادہ بھی نہیں۔

”اما الفروع الاربعة الأول فاقول: كذا الحكم فيها. بیدانه یغید اما الحكم فلما قدمت عن الحلیة والغنیة عن شمس الائمة انه لا فرق فی تلك الفروع وان الروایة فی احدها رواية فی سائرہا وقد كان هناك اعنی فرع شمس الائمة التلبس بالنجاسة ولو فی القدمین او الخفین مع ترك الركوع والسجود وليس فی هذا الفرع الرابع الا التلبس بنجس واما الاعادة فلما علمت من مراعاة اصل المذهب مع ما فی الفروع الثلاثة الأول من صورة المنع من جهة العباد واللہ تعالیٰ اعلم بسبیل الرشاد“ ترجمہ: اب رہے پہلے چار جزئیات میں کہتا ہوں: ان میں بھی یہی حکم ہوگا فرق یہ ہے کہ ان صورتوں میں بعد وقت اعادہ بھی کرنا ہوگا وقت کے اندر ادائے نماز کا حکم ہم نے اس قاعدہ اور جزئیہ سے اخذ کیا جو حلیہ وغنیۃ کے حوالہ سے شمس الائمہ سے ہم نے گزشتہ صفحات میں نقل کیا کہ ان جزئیات میں فرق نہیں اور ایک میں روایت دوسرے میں بھی روایت ہے اور وہاں یعنی شمس الائمہ کے بیان کردہ جزئیہ میں یہ تھا کہ نجاست سے اتصال لازم آتا تھا اگرچہ صرف قدموں یا موزوں ہی میں، اور رکوع و سجود ترک ہوتا تھا اور اس چوتھے جزئیہ میں بھی یہی نجس (کپڑے) سے اتصال لازم آ رہا ہے اور اعادہ کا حکم اس لئے کہ اصل مذہب کی رعایت ہو جائے ساتھ ہی پہلے تین جزئیوں میں یہ بات بھی ہے کہ بندوں کی جانب سے رکاوٹ کی صورت پائی جا رہی ہے۔

پانچویں دلیل: ”وخاصہا: تجزونه خوف فوت صلاة الجنازة

وصلاة العيد فكذا خوف فوت الوقت“ ترجمہ: دلیل پنجم: آپ نماز جنازہ اور نماز عید فوت ہونے کے اندیشہ سے تیمم کی اجازت دیتے ہیں تو وقت کے فوت ہو جانے کا اندیشہ بھی تو ایسا ہی ہے۔

”واجاب البحر بان فضيلة الوقت والاداء وصف للمؤدى تابع له غير

مقصود لذاته بخلاف صلاة الجنازة والعيد فانها اصل فيكون فواتها فوات

اصل مقصود۔ هذا تمام سعيه رحمه الله تعالى ورحمنابه وقد اقره على كله في

المنحة“ ترجمہ: بحر میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ منجگانہ نمازوں میں مقصود بالذات خود نماز

ہے اور اس کیلئے قضا نہ ہونے ادا ہونے اور وقت کے اندر ہونے کی فضیلت مؤدی کی ایک

صفت ہے جو اس کے تابع ہے مقصود بالذات نہیں ہے مگر نماز جنازہ وعید خود اصل ہیں تو ان

کا فوت ہونا ایک اصل مقصود کا فوت ہونا ہے۔ یہ صاحب بحر کی تمام تر کاوش ہے، خدا ان پر

اور ان کے طفیل ہم پر رحم فرمائے۔ مدحة الخالق میں علامہ شامی نے بھی ان سب کو برقرار

رکھا ہے۔

اقول اولاً: كون شيء وصفا في شيء لا يوجب كونه غير مقصود

بالذات كوصف الايمان في رقبة كفارة القتل بل قد يكون الوصف هو

المقصود كالا سلام في مصرف الزكاة“ ترجمہ: اولاً میں کہتا ہوں: ایک شے کا

دوسری شے کی صفت ہونا اس کے غیر مقصود بالذات ہونے کو لازم نہیں کرتا جیسے کفارہ قتل

میں دئے جانے والے غلام یا باندی میں صفت ایمان غیر مقصود بالذات نہیں بلکہ بعض

اوقات خود وصف ہی مقصود ہوتا ہے جیسے مصرف زکوٰۃ میں صفت اسلام۔

”وثنایا: نحن نعلم قطعاً ان المولى سبحانه وتعالى كما امرنا بالصلاة

امرنا بايقاعها فى وقتها وحرم اخراجها عنه لا لعذر فالكمل مقصود عينا سبحانه

﴿انَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ وقال عز وجل ﴿حافظوا على

الصلوات والصلوة الوسطى﴾ وقال تعالى ﴿فويل للمصلين الذين هم عن

صلواتهم ساهون﴾ وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج وقتها سماهم مصلين

وجعل لهم الويل لاخراجهم اياها عن وقتها فكان الوقت مقصودا

عينا“ ترجمہ: ثانیاً: ہمیں قطعی طور پر معلوم ہے کہ مولیٰ سبحنہ وتعالیٰ نے جس طرح ہمیں نماز

پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی طرح ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ نماز کو اس کے مقررہ وقت کے اندر ادا

کریں اور بغیر کسی عذر کے اس وقت سے باہر لانا حرام فرمایا ہے، تو سبھی مقصود بالذات ہے

ارشاد ہے: بے شک نماز ایمان والوں پر وقت باندھا ہوا فریضہ ہے۔ اور ارشاد ہے:

نمازوں اور بیچ والی نماز کی حفاظت کرو اور فرمایا: ”توویل“ (خرابی) ہے ان نمازیوں کیلئے جو

اپنی نماز سے غافل ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نماز اس حد تک مؤخر کرتے ہیں کہ اس کا وقت

نکل جاتا ہے انہیں نمازی کہا، ساتھ ہی ان کیلئے ویل بھی قرار دیا اس لئے کہ وہ نماز وقت

سے باہر ادا کرتے ہیں تو خود وقت بھی مقصود بالذات ہوا۔

”وثالثاً: لمن سلم محافظة الوقت فرض عين والجنابة فرض كفاية

وصلاة العيد ليست فريضة اصلاً والفرض ولو مقصوداً لغيره اهم واعظم مما

دونه ولو مقصوداً لذاته الاترى ان لوضاق الوقت عن الواجبات وجب

اسقاطها والاقتصار على الفرض لايقاعه فى الوقت واذا الامر هكذا فاذا جاز

التيمم لخوف فوت الادنى كيف لايجوز للاعلى لاسيما وقد سقط فرض

الجنزة بصلاة غيره“ ترجمہ: ثالثاً: اگر آپ کی بات تسلیم کر لی جائے تو بھی یہ کہا جائے گا کہ وقت کا تحفظ فرض عین ہے اور جنازہ فرض کفایہ ہے اور نماز عید تو سرے سے فرض ہی نہیں (بلکہ واجب ہے) اور فرض اگرچہ مقصود بغیرہ ہو، اپنے نیچے والے سے خواہ وہ مقصود بالذات ہو زیادہ عظمت و اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھئے! اگر وقت اس قدر تنگ ہے کہ صرف فرائض ادا کر سکتا ہے واجبات کی گنجائش نہیں تو واجبات کو ساقط کر دینا اور فرض پر اکتفا کرنا لازم ہے تاکہ ادائیگی وقت کے اندر ہو جائے جب یہ معاملہ ہے تو جب فوت ادنیٰ کے اندیشہ سے تیمم جائز ہو تو اعلیٰ کی وجہ سے کیوں جائز نہ ہوگا جب کہ فرض جنازہ تو دوسرے کے پڑھ لینے سے ساقط ہو جاتا ہے۔

ورابعاً: قد قلتم بالتيمم لخوف فوت السنن وما هن اصول انما شرعت مكملات للاصول وعلى التسليم فاین التحفظ على فريضة الوقت من التحفظ على سنة“ ترجمہ: رابعاً: آپ نے تو سنتیں فوت ہونے کے اندیشہ سے بھی تیمم جائز کہا ہے حالانکہ سنتیں اصل نہیں بلکہ یہ اصل کے متمم کی حیثیت سے مشروع ہوئی ہیں اور اگر یہی مان لیا جائے کہ سنتیں خود مقصود اور اصل ہیں تو بھی کہاں وقت میں لازم کئے گئے فرض کا تحفظ اور کہاں سنت کا تحفظ (دونوں میں بڑا فرق ہے)۔

”وخامساً: قد سلمتم ان الفأيت لا الى خلف يجوز له التيمم ولا شك ان الطلب الالهي متنهض على ايقاع الفريضة في وقتها كانهاضه على نفس ايقاعها وهذا لا خلف له وان كانت الصلاة لها خلف فهذا مقصود الدليل ولايمسه الجواب“ ترجمہ: خامساً: آپ کو یہ تسلیم ہے کہ اگر فوت ہونے والی چیز ایسی ہو کہ اس کا کوئی نائب و بدل نہیں تو اس کیلئے تیمم جائز ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا

کا مطالبہ نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنے کا بھی اسی طرح ہے جیسے خود نماز پڑھنے کا ہے اور وقت کے اندر ادا کرنا ایسا امر ہے جس کا کوئی بدل نہیں اگرچہ نفس نماز کا بدل ہے۔
دلیل پنجم کا مقصود یہی تھا جس سے جواب کو کوئی مس نہیں۔

چھٹی دلیل: دلیل ششم جیسا کہ میں کہتا ہوں، ہمارے ائمہ رضی اللہ تعالیٰ

عنہم کا اس پر اجماع ہے کہ جب جسے بیرون شہر سردی سے خطرہ ہے وہ تیمم کرے جیسا کہ ہدایہ اور عامہ کتب میں ہے اور حلیہ، بدائع، بحر، ثمر تاشی کے حوالہ سے پہلے ذکر بھی ہو چکا۔ یہ معلوم ہے کہ زیادہ تر صبح کو خوف ہوتا ہے جبکہ کسی سردی کی رات میں صبح کو جنابت کی حالت میں اٹھے پھر سورج بلند ہونے کے بعد خوف نہیں رہ جاتا۔ مگر ائمہ نے اسے یہ حکم نہ دیا کہ آفتاب بلند ہونے تک نماز مؤخر کرے بلکہ اس کیلئے تیمم جائز قرار دیا جس سے معلوم ہوا کہ یہ تحفظ وقت ہی کیلئے ہے۔

ساتویں دلیل: ”وسابعها: كما اقول اباحوه لخوف عدو ولص

وسبع وحية ونار ومعلوم ان كثيرا من هذه لايثبت الا قليلا فالنار تنطفى او تمر في ساعة او ساعتين ولم يقولوا يصبر وان خرج الوقت“ ترجمہ: دلیل ہفتم جیسا کہ میں کہتا ہوں، دشمن، چور، دزدے، سانپ اور آگ کے خوف سے تیمم جائز قرار دیا گیا ہے جبکہ معلوم ہے کہ ان میں سے زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جو تھوڑی ہی دیر رہتی ہیں۔ آگ بھی گھٹنے دو گھٹنے میں بجھ جاتی ہے یا گزر جاتی ہے۔ مگر یہ حکم نہ ہوا کہ انتظار کرے اگرچہ وقت نکل جائے۔ ”فان اجبت كما خطر بيالي ان التيمم ليس لحفظ الوقت وانما هو لتدفع الضرر والخرج حيث كان وفي البرد والنار وامثالها ضرر وفي بعده ميلا خرج فتحقق المناظ لانه اذا ادرك الوقت فاراد الصلاة لايتهى عنها ولا ينظر الا

الی حالتہ الواہنة وهو فیہا متضرر او متخرج بالوضوء او الغسل فایصح له التیمم“ ترجمہ: اگر اس کے جواب میں یہ کہا جائے جیسا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ تیمم تحفظ وقت کیلئے نہیں بلکہ ضرر و حرج دفع کرنے کیلئے ہے جہاں بھی ہو۔ ٹھنڈک اور آگ جیسی چیزوں میں ضرر ہے اور ایک میل دُور ہونے میں حرج ہے تو جو امر مدار جواز ہے وہ پالیا گیا اس لئے کہ جب نماز کا وقت آ گیا اور اس نے نماز پڑھنا چاہی تو اس سے اسے روکا نہ جائے گا اور اس کی موجودہ حالت ہی دیکھی جائے گی۔ اس حالت میں وضو یا غسل سے واقعہ اس کیلئے ضرر یا حرج ہے تو تیمم اس کیلئے جائز قرار دیا گیا۔

اقول: هل يختص الحرج والضرر بما یصیب بدنه وماله ام یعم

ما یتضرر بہ فی دینہ علی الاول لم ابحتم لخوف فوت جنازة وعید وعلی الثانی ان کان علیہ ضرر فی دینہ لفوت فرض کفایہ مع انها قد اقيمت و واجب بل و سنة لا الی بدل اذ لا براءة لعہدته عن هذه المطالبة الشرعیة الا بالتیمم فضرر اعظم واشد منه فی فوت الفریضة عن وقتها ولا براءة لعہدته عن هذه المطالبة الشرعیة العظمی اعنی الاتیان بها فی وقتها الا بالتیمم فیجب ان

یساح“ ترجمہ: **اقول:** (میں کہتا ہوں: کیا حرج یا ضرر اسی چیز سے خاص ہے جو اس کے بدن اور مال سے تعلق رکھتی ہو یا اسے بھی عام ہے جس سے اس کے دین میں نقصان و ضرر ہو؟ پہلی صورت پر یہ کلام ہے کہ پھر آپ نے فوت جنازہ و عید کے اندیشہ سے تیمم کیوں جائز کہا؟ اور دوسری تقدیر پر یہ کہ اگر اس کے دین کا نقصان اس میں ہے کہ ایک فرض کفایہ فوت ہو رہا ہے جبکہ دوسرے لوگوں سے اس کی ادائیگی عمل میں آ چکی اور اس میں کہ ایک واجب فوت ہو رہا ہے بلکہ صرف ایک سنت بھی جس کا کوئی بدل نہیں۔ (اس لئے آپ نے

تیم کو جائز کہا) کیوں کہ بغیر تیم کے وہ اس شرعی مطالبہ سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا تو اس سے زیادہ عظیم اور اس سے زیادہ شدید نقصان تو اس میں ہے کہ ایک فرض عین اپنے وقت سے فوت ہو رہا ہے اور بغیر تیم کے اس عظیم تر شرعی مطالبہ وقت کے اندر ادائیگی سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا تو لازم ہے کہ اس کیلئے بھی تیم جائز ہو۔

”هذا ما عندی فاستنار بحمد اللہ تعالیٰ ما جنح الیہ المحقق واتباعه من قوة دلیل زفر بل دلیل ائمتنا جمیعاً فی الروایة الاخری و کیفما کان لاینزل من ان یؤخذ به تحفظاً علی فريضة الوقت ثم یؤمر بالاعادة عملاً بالروایة المشهورة فی المذهب لاجرم ان قال فی الغنیة بعد ایراد ما قدمنا عن شمس الائمة وحينئذ فالاحتیاط ان یصلی بالتیمم فی الوقت ثم یتوضؤ و یعید لیخرج عن العهدین بیقین“ ترجمہ: ہذا ما عندی (میرے علم و فکر کی رُو سے یہی ہے) اس تفصیل سے بحمد اللہ تعالیٰ وہ روشن ہو گیا جس کی طرف محقق علی الاطلاق اور ان کے متبعین کا رجحان ہے کہ امام زفر کی دلیل بلکہ روایت دیگر کے لحاظ سے ہمارے سبھی ائمہ کی دلیل قوی ہے اور جیسا بھی ہو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ فريضة وقت کے تحفظ کیلئے اس قول کو لیا جائے پھر اعادہ کا حکم دیا جائے تاکہ مذہب کی روایت مشہورہ پر بھی عمل ہو جائے شمس الائمہ کے حوالہ سے جو ہم نے پہلے بیان کیا اسے ذکر کرنے کے بعد غنیۃ میں لکھا ہے: اس کے پیش نظر احتیاط یہی ہے کہ وقت کے اندر تیم سے نماز پڑھ لے، پھر وضو کر کے اعادہ کرے تاکہ دونوں ذمہ داریوں سے یقینی طور پر سبکدوش ہو جائے۔

”وقد نقل کلامہ ہذا فی الدر و اقرہ هو والسادة الاربعة محشوه ح ط
ش و ابو السعود وقال الشامي هذا قول متوسط بين القولين وفيه الخروج عن

العہدۃ بیقین فلذا اقرہ الشارح فینبغی العمل بہ احتیاطاً ولا سیما و کلام ابن
 الہمام یمیل الی ترجیح قول زفر بل قد علمت انه رواۃ عن مشائخنا الثلاثة
 رضی اللہ تعالیٰ عنہم ونظیر هذا مسألة الضیف الذی خاف ریبہ فانہم قالوا
 یصلی ثم یعید“ ترجمہ: ان کا یہ کلام درمختار میں نقل کر کے برقرار رکھا اور درمختار کے چاروں
 محشی سید حلبي، سید طحاوی، سید شامی اور سید ابوالسعود نے بھی برقرار رکھا اور علامہ شامی نے
 فرمایا: یہ دونوں قولوں کے مابین ایک درمیانی قول ہے، اور اس میں یقینی طور پر ذمہ داری
 سے سبکدوشی ہے۔ اسی لئے شارح نے اسے برقرار رکھا تو احتیاطاً اسی پر عمل ہونا چاہئے
 خصوصاً جبکہ امام ابن ہمام کا کلام امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے قول کی ترجیح کی جانب
 مائل نظر آتا ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہو چکا کہ یہ تو ہمارے تینوں مشائخ سے ایک روایت ہے
 (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) اس کی نظیر اس مہمان کا مسئلہ ہے جسے تہمت کا اندیشہ ہو۔ اس کے
 بارے میں فقہاء نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھ لے پھر اعادہ کرے ”وانما اظننا الکلام ہہنا
 لما رأینا بعض العلماء تعجب منه حین افتیت بہ فی مجلس جمعنا وباللہ
 التوفیق والوصول الی ذری التحقیق والحمد للہ رب العلمین وصلى اللہ تعالیٰ
 وسلم علی سیدنا ومولانا محمد والہ وصحبہ اجمعین امین“ ترجمہ: اس مقام پر
 ہم نے تفصیلی بحث اس لئے کی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب ایک محفل میں اس پر میں نے
 فتویٰ دیا تو ایک عالم کو بڑا تعجب ہوا اور خدا ہی کی جانب سے توفیق، اور بلندی تحقیق تک
 رسائی ہوتی ہے اور ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لئے جو سارے جہانوں کا رب ہے اور اللہ
 تعالیٰ درود و سلام نازل فرمائے ہمارے آقا و مولیٰ محمد اور ان کی آل و اصحاب سب پر۔
 آمین۔ رسالہ ضمنیہ ”الظفر لقول زفر“ تمام ہوا۔

محل ضرورت میں زبل دواب کو پاک مانا جائے جو کہ امام زفر کا ہے۔ وسیلۃ الزفر میں ہے ”طہارۃ زبل الدواب علی قول زفر یفتی بہا فی محل الضرورة کمحری میاہ دمشق الشام“ ترجمہ: چوپاؤں کے لید پاخانوں سے متعلق محل ضرورت میں امام زفر کے قول پر فتویٰ ہے جس طرح دمشق کے چلتے پانی سے متعلق امام زفر کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ (وسیلۃ الزفر، صفحہ 119، دار خضر، احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے بیس مفتی بہ مسائل مکمل ہوئے
ان سب کو تحریر کرنے کے بعد علامہ شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) لکھتے ہیں
”فصارت جملة المسائل عشرين مسألة بعد إسقاط الثلاثة المارة“ ترجمہ: پس امام زفر کے رائج قول کے مطابق مفتی بہ بیس مسائل پورے ہوئے اور تین ایسے ہیں جو مرجوح قول کے مطابق مفتی بہ ہیں۔

(وسیلۃ الزفر، صفحہ 120، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے مفتی بہ مسائل بصورت نظم
علامہ شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے مفتی بہ بیس مسائل کو نظم کی صورت میں ترتیب دیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں ”وقد نظمتها كذلك بقولی: ترجمہ: میں نے اس کو نظم کی صورت میں ترتیب دیا ہے۔“

بحمد إله العالمين مبسلاً... أتوج نظمى والصلاة على العلا

وبعد فلا يفتي بما قاله زفر... سوى صور عشرين تقسيمها انجلي

جلوس مريض مثل حال تشهد... كذا من يصلي قاعدا متفلا

وتقدير إنفاق لمن غاب زوجها... بلا ترك مال منه ترجو تخولا
 يرايح شاري ما تعيب عنده... إذا قال إني ابتعته سالم الحل
 وليس يلي قبضا وكيل خصومة... ويضمن ساع بالبريء تقولا
 وتسليم مكفول بمجلس حاكم... تحتم أن يشرط على من تكفلا
 ويبقى خيار عند رؤية مشتر... لثوب بلا نشر لمطويه جلا
 كذا رؤية للبيت من صحن داره... إذا لم يكن من داخل قد تأملا
 قضاه جيادا عن زيوف أدائها... فلا جبر إن لم يرض أن يتقبلا
 مبادر إشهاد على أخذ شفعة... بتأخير شهر لذلك أبطلا
 نوى لقطة في حال حبس لأخذ ما... صرفت عليها مسقط ذا مكملا
 وزد ضرب حساب أراد مطلق... يصح بترجيح الكمال تعدلا
 ورجح أيضا عقد تدبير عبده... بترديده بالقتل والموت فانقلا
 وأيضا نكاحا فيه توقيت مدة... يصح وذا التوقيت يجعل مرسلا
 ووقف دنائير أجز ودرهم... كما قاله الأنصاري دام مبجلا
 وواطء من قد ظنها زوجة إذا... أته بليل حده صار مهملا
 ويحنت في والله لست معير ذا... لزيد إذا أعطى لمن جاء مرسلا
 لمن خاف فوت الوقت ساع تيمم... ولكن ليحتط بالإعادة غاسلا
 طهارة زيل في محل ضرورة... كمجرى مياه الشام صينت من البلا
 فهناك عروسا بالجمال تسربلت... وجاءت عقود الدر في جيدها حل
 وصلى على نحتم النبيين ربنا... وآل وأصحاب ومن بالتقى علا

(ردالمحتار، باب النفقة، مطلب، فی فرض النفقة، جلد 3، صفحہ 9-607، بیروت)

امام زفر کے مرجوح قول کے مطابق مفتی بہ مسائل

مسئلہ نمبر 21

آئمہ ثلاثہ احناف (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے نص مذہبی یہ ہے کہ دعویٰ عقار میں حدود کو بیان کرنا ضروری ہے مگر اس میں حدود اور بچہ کی قید ضروری نہیں، بلکہ حدود ثلاثہ کو بیان کرنا کافی ہے اور اگر چوتھی حد بیان کرنے میں غلطی کی تو وہ دعویٰ عقار بالا جماع صحیح نہ ہوگا۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ حدود والوں کا نام مع نسب اور ان کے دادا کا نام ذکر کرنا بھی ضروری ہے اور یہ اس وقت ہے کہ جب وہ شخص خود مشہور و معروف نہ ہو اور اس پر گواہی دینے کے معاملے میں بھی حدود کا بیان ضروری ہے اگرچہ عقار مشہور ہی کیوں نہ ہو برخلاف صاحبین (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کے، ہاں البتہ اگر گواہ اس غیر منقولی چیز کو اچھی طرح جانتے ہوں تو اصح مذہب کے مطابق اب ذکر حدود کی بھی حاجت نہیں۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 101، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا مذہب

دعویٰ عقار میں حدود اور بچہ کا بیان کرنا ضروری ہے۔ یعنی جب کوئی دوسرے پر غیر منقولی چیز کا دعویٰ کرے تو امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے نزدیک صحت دعویٰ کے لئے حدود اور بچہ کو بیان کرنا ضروری ہے۔ علامہ شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) لکھتے ہیں ”لابد فی دعویٰ العقار من بیان حدودہ الاربع ای اذا ادعی انسان علی آخر عقاراً فلا بد فی صحۃ دعواه من ان ینبئ حدودہ الاربع عند زفر رحمہ اللہ تعالیٰ۔ هو المفتی بہ علی القول المرجوح ونص المذہب علی قول آئمۃ الثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ“

انه يشترط التحديد في دعوى العقار الا انه لا يشترط ذكر الحدود الاربع بل
يكتفى بذكر ثلاثة منها۔ ولو ذكر الزابع وغلط فيه لا يصح اجماعا
ولا بدايضا اجماعا من ذكر اسماء اصحاب الحدود واسماء انسابهم ولا بد من
ذكر الجد لكل منهم ان لم يكن الرجل مشهورا ويشترط التحديد في
الشهادة عليه ولو العقار مشهورا خلافا لهما الا اذا عرف الشهود الدار أو العقار بعينه
فلا يحتاج الى ذكر الحدود على الاصح ولا بد من ذكر المدعى للعقار انه في
يد المدعى عليه واثبات ذلك بالبرهان فلا تثبت يده في العقار بتصادقهما بل
لا بد من بينة أو علم قاض اذا كان المدعى ادعى العقار ملكا مطلقا ما اذا كان
ما ادعاه غصبا أو شراء من ذي اليد فلا يفتقر ذلك لبينة“ ترجمہ: زمین یا پلاٹ وغیرہ
کے دعوی میں اس کی حدود اور بچہ کو بیان کرنا ضروری ہے۔ یعنی جب کوئی دوسرے پر عقار کا
دعوی کرے تو امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے نزدیک اس کے دعوی کے صحیح ہونے کے
لئے ضروری ہے کہ وہ اس کی حدود اور بچہ کو بیان کرے۔ مرجوح قول کے مطابق یہی مفتی بہ
ہے اور ہمارے آئمہ ثلاثہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے جو شخص مذہبی ہے وہ یہ ہے کہ حدود کو
بیان کرنا ضروری ہے مگر چاروں بیان کرنا ضروری نہیں بلکہ اگر تین بھی ذکر کر دیں تو کافی ہو
گا اور اگر اس نے چھوٹی حد بیان کی مگر غلط بیان کی تو بلا اجماع درست نہ ہوگا۔ نیز اصحاب
حدود کے نام، نسب اور ان کے باپ دادا کا نام بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ باپ دادا کا نام
اس وقت بیان کرنا ضروری ہوگا کہ جب خود یہ شخص مشہور و معروف نہ ہو۔ گواہی دیتے
ہوئے بھی اس کی حد بندی لازم ہوگی اگرچہ عقار مشہور ہو بخلاف ان دونوں کے۔ ہاں اگر
گواہ گھر یا پلاٹ وغیرہ کو اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی وہ اس سے اچھی طرف واقف ہیں تو

پھر گواہی میں حدود کا بیان صحیح مذہب کے مطابق لازمی نہیں۔ مدعی کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ دعویٰ میں یہ بھی کہے کہ میری زمین مدعی علیہ (فلان) کے قبضے میں ہے اور پھر اس قبضے کو گواہوں سے ثابت کرے، صرف ایک دوسرے کی تصدیق کرنے سے زمین پر قبضہ ثابت نہیں ہوگا، بلکہ یا تو گواہوں سے قبضہ ثابت کرنا ضروری ہے یا پھر خود قاضی کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے اور یہ سب اس وقت ہے کہ جب مدعی اس زمین میں ملکیت مطلقہ کا دعویٰ کرے اگر وہ غصب کا دعویٰ کرتا ہے یا کہتا ہے کہ میں نے اس زمین کو مالک سے خریدا تھا تو پھر اسے (مدعی علیہ کا قبضہ ثابت کرنے کیلئے) گواہوں کی حاجت نہ پڑے گی۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 3-102، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

مسئلہ نمبر 22

نص مذہبی یہ ہے کہ اندھے کی گواہی مطلقاً قبول نہ کی جائے۔

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا مذہب

جن معاملات میں بات کو سن کر فیصلہ کیا جاتا ہے، ان میں اندھے کی گواہی قبول کی جائے گی۔ یعنی جس میں آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا ضروری نہ ہو۔ علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں ”قبول شهادة الاعمى فيما يجزىء فيه التسماع اى تقبل شهادة الاعمى فى الاشياء التى تقبل فيها الشهادة بالسمع ولا يشترط فيها المعاينة عند زفر رحمه الله تعالى وهو رواية عن الامام رحمه الله تعالى وهو المفتى به على القول المرجوح ونص المذهب على قول الامام على الرواية الثانية وقول محمد انه لا تقبل شهادة الاعمى مطلقاً“ ترجمہ: اندھے کی گواہی جس معاملہ میں بات سن کر فیصلہ کیا جاتا ہے قبول ہے۔ یعنی جس معاملے میں سماع کو بنیاد بنا کر شہادت قبول کی جاتی ہو، گواہ

جس کی گواہی دے رہا ہے اس کی گواہی کے لئے آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہ ہو تو اس میں اندھے کی گواہی مقبول ہے۔ یہ امام زفر کا فتویٰ ہے اور امام اعظم کی بھی اس سے متعلق ایک روایت ہے۔ مرجوح قول کے مطابق یہ مفتی بہ ہے جبکہ نص مذہبی جو امام اعظم کی دوسری روایت ہے اور جو امام محمد کا قول ہے وہ یہ ہے کہ اندھے کی گواہی مطلقاً قابل قبول نہیں۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 103، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

مسئلہ نمبر 23

نص مذہبی یہ ہے کہ تہائی مال ہلاک ہونے کی صورت میں باقی جو بچے گا وہ تمام وکمال موصی لہ کو دیا جائے گا اور رائج مذہب کے مطابق یہی مفتی بہ قول ہے۔

(وسيلة الزفر، صفحہ 105، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا مذہب

اگر کسی شخص نے اپنی نقد مال کی یا اپنے نقدی کے علاوہ کسی دوسرے مال میں سے تہائی کی وصیت کی۔ لیکن تہائی مال ضائع ہو گیا تو اب دونوں قسم کے مالوں میں سے جو ٹکٹ باقی بچا ہے اس کا بھی ٹکٹ یعنی تہائی موصی لہ کو ملے گا، وہ سارا ٹکٹ موصی لہ کو نہیں ملے گا۔ یہ امام زفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے نزدیک ہے۔ مرجوح قول کے مطابق یہ مفتی بہ ہے جیسا کہ علامہ شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) لکھتے ہیں ”لو أوصی شخص بثلث نقده أو غنمه لآخر فضاخ الثلثان فللموصی له ثلث الباقي متھمالا كله عند زفر رحمہ اللہ تعالیٰ وهو المفتی بہ علی القول المرجوح ونص المذہب علی قول اصحابنا الثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ رحمۃ عامۃ ان لہ الباقي كله منہما وهو المفتی بہ علی القول الراجح۔“

(وسيلة الزفر، صفحہ 105، دار خضر، سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

حرف آخر

اللہ عزوجل کے کرم سے یہ کتاب 30 ربیع الآخر 1434 بمطابق 12 مارچ 2013 کو مکمل ہوئی۔ اللہ عزوجل اسے قبول خاص و عام فرمائے، اور ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت پڑھ کر ان کے مشن کو مزید جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی سیرت سے تربیت لے کر دوسروں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔

اعتذار

اپنی طرف سے مکمل کوشش کی کہ کتاب میں کوئی غلطی نہ آئے بالخصوص شرعی حوالے سے، ترجمہ و پروف ریڈنگ وغیرہ پر بھی بھرپور توجہ دی گئی۔ اس کے باوجود عین ممکن کہ ہمیں ہماری خطائیں قارئین حضرات پر آشکار ہوں، اس لئے گزارش ہے کہ کوئی غلطی پائیں تو مصنف کے اس نمبر پر ڈائریکٹ رابطہ فرمائیں، تاکہ آئندہ آپ کے تعاون سے اس غلطی کی تصحیح ممکن ہو سکے۔ 0334-3298312

--- المصادر والمراجع ---

- (1) المنجد، خزينة علم وادب، الكريم ماركيت، اردو بازار، لاہور
- (2) طبقات كبرى، دار الكتب العلمية، بيروت
- (3) اخبار ابي حنيفة واصحابه، عالم الكتب، بيروت
- (4) سير اعلام النبلاء، دار الحديث القاهرة
- (5) الوافي بالوفيات، دار احياء التراث، بيروت
- (6) وفيات الاعيان، بيروت
- (7) تاريخ جرجان، عالم الكتب - بيروت
- (8) لمحات النظر، المكتبة الازهرية، للتراث، بيروت
- (9) تهذيب الاسماء، دار الكتب العلمية، بيروت
- (10) الثقات لابن حبان
- (11) تهذيب الكمال في اسماء الرجال، بيروت
- (12) المغني في الضعفاء
- (13) طبقات المحققين، مؤسسة الرسالة، بيروت
- (14) الاشتقاق
- (15) جواهر لمضية في طبقات الحنفية، مير محمد كتب خانہ، کراتشي
- (16) الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت
- (17) سيرت رسول عربي صلى الله تعالى عليه وسلم، ضياء القرآن، لاہور
- (18) وسيلة الزفر، دار خضر، بيروت

- (19) تاریخ بغداد، دار الغرب الاسلامی، بیروت
- (20) منازل الأئمة الأربعة، مكتبة الملك فهد الوطنية
- (21) مناقب الامام ابی حنیفة، إحياء المعارف النعمانية، حیدرآباد الدکن بالہند
- (22) معرفة علوم الحديث، دار الكتب العلمية، بیروت
- (23) مناقب الامام لکھڑوی، مكتبة اسلامية، کوسٹہ
- (24) المختب، بیروت، لبنان
- (25) الانتقاء فی فضائل الأئمة الثلاثة، دار الكتب العلمية
- (26) اصول الدین عند الامام، دار الصمعی، السعودیة
- (27) رسم المفتی، مكتبة دار العلوم، کراچی، پاکستان
- (28) فتاوی رضویہ، رضا فاؤنڈیشن، لاہور
- (29) الاعلام لزرکلی، دار العلم للملايين
- (30) الطبقات السعیة فی تراجم الخفیه
- (31) البحر الرائق، دار الكتاب الاسلامی
- (32) درر شرح غرر
- (33) رد المختار
- (34) سبع مسائل فی علم الخلاف، الجامعة الاسلامیة بالمدينة المنورة
- (35) الاشتقاق، قبائل بنی تمیم، دار الجبل، بیروت، لبنان
- (36) لسان المیزان، بیروت، لبنان
- (37) تاریخ التشریع الاسلامی، مكتبة وهبه

(38) مغاني الاخيار في شرح اسامي رجال، دار الكتب العلمية، بيروت

(39) الطبقات السنية في تراجم الحنفية

(40) وفيات الاعيان، دار صادر، بيروت

(41) مشاهير علماء الامصار، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة

(42) طريق الهداية

(43) تحريم النظر في كتب الكلام، عالم الكتب، السعودية، الرياض

(44) لسان العرب، دار صادر، بيروت

(45) التفسير القرآني، دار الفكر العربي، بيروت

(46) التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة

(47) حاشية تاويل مختلف الحديث، المكتب الاسلامي، مؤسسة الاشراق

(48) تاريخ التتميم للإسلامي، مكتبة وهبة، لطبعة: الخامسة

(49) الفقيه والمحقق، دار ابن الجوزي - السعودية، الطبعة: الثانية، 1421هـ

(50) مجمع لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع

(51) النهاية، المكتبة العلمية، بيروت

(52) الكليات، مؤسسة الرسالة، بيروت

(53) شرح بخاري لابن بطال، الرياض

(54) عمدة القاري، دار المعرفة، بيروت

(55) الفصول في الاصول، الكويتية

(56) المبسوط للسرخسي، دار المعرفة، بيروت

- (57) اصول السرخسي، جلد ارا المعرفة، بيروت
- (58) العدة في أصول الفقه
- (59) بهار شريعت، مكتبة المدينة، كراچی
- (60) فتح الباری لابن حجر، دار المعرفة، بيروت
- (61) میزان الاعتدال، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان
- (62) فتح الباری لابن رجب، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية
- (63) تاريخ ابن معين، رواية الدوري، مكة المكرمة
- (64) ابن أبي حاتم، دار احیاء التراث العربی، بيروت
- (65) کتاب الثقات، دائرة المعارف العثمانية بحیدرآباد الدکن الہند
- (66) الرسالة المتصلة بالضعفاء والمتر وکین للنسائی
- (67) موسوعة اقوال ابی الحسن
- (68) القضاء والقدر للبيهقي، الرياض
- (69) مسند ابی حنيفة رواية ابی نعیم، مكتبة الكوثر، الرياض
- (70) روضة التلذذ ارقطنی، مكتبة المنار، الزرقاء - الأردن
- (71) علل دار قطنی، دار طبیب، الرياض
- (72) مجتم اوسط، من اسمہ محمد، دار الحرمین، القاهرة
- (73) مجتم صغیر لطبرانی، المکتب الاسلامی، بیروت، عمان
- (74) مجتم کبیر لطبرانی، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة
- (75) مجالس من أمالی أبی عبد اللہ بن مندہ،

- (76) معجم كبير لطبراني، مكتبة ابن تيمية - القاهرة
- (77) تلخيص المتشابه في الرسم، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق
- (78) تاريخ اصفهان، دار الكتب العلمية، بيروت
- (79) تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية، بيروت
- (80) سنن دارقطني، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان
- (81) الطب النبوي، لابی نعیم اصفهانی، دار ابن حزم
- (82) تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، مطبوعه مصر
- (83) البناء شرح هداية
- (84) مسالك الابصار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وہابی مولوی احسان الہی ظہیر کی کتاب ”البریلویہ“ کا

علمی مُحاسبہ

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔

وہابی مولوی احسان الہی ظہیر کا ”البریلویہ“ میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن

اور عقائد اہل سنت پر لگائے الزامات کا تفصیلی جواب

شرک و بدعت، علم غیب، نور و بشر، حاضر و ناظر، اختیارات و تصرفات، ختم و نیاز
عید میلاد النبی وغیرہ کے متعلق اہل سنت کے دلائل اور وہابیوں کے اعتراضات کے
جوابات، وہابی مولویوں کی گستاخانہ عبارات، انگریزوں کے چندوں پر کون پلتے تھے
بریلوی یا وہابی؟ تحریک پاکستان کی حمایت اور مخالفت کس کس فرقے نے کی؟

ابو احمد محمد انس رضا عطاری
تخصّص فی الفقہ الاسلامی، الشہادۃ العالمیہ
ایم۔ اے اسلامیات، ایم۔ اے پنجابی، ایم۔ اے اردو

مکتبہ فیضان شریعت، لاہور

عنقریب مکتبہ فیضان شریعت سے منظر عام پر آنے والی دیگر کتب

نمبر شمار	نام کتاب	مصنف
1	البریلویہ کا علمی محاسبہ	محقق مولانا محمد انس رضا
2	جیت فقہ	محقق مولانا محمد انس رضا
3	سواہ بازار (جیولری کا کاروبار)	محمد اظہر عطاری
4	قرض کے احکام	محمد اظہر عطاری
5	مسجد انتظامیہ کیسی ہونی چاہیے؟	محمد اظہر عطاری
6	امام مسجد کیسا ہونا چاہیے؟	محمد اظہر عطاری

0334-3298312

گلاب رشتا ہے غیبِ غمخوارِ باری
اودھ کے کبر و خیرِ مائیں و شکر کریں

وہابی مولوی
احسان الہی ظہیر کی کتاب

البریلونیا علی محاسبہ

مصنف
ابو احمد مولانا محمد اشرف رضا قادری
تخصص فی الفقہ الاسلامی (اشیاء عامہ)
ایم اے اسلامیات ایم اے پنجابی و پشتو ادب

مکتبہ فیضانِ شریعت
0334-3298312



طلاق ثلاثہ

تحقیقی جائزہ

اس کتاب کے بارے میں

- یہ کتاب طلاق ثلاثہ کے حلال ہونے پر بحث کرتی ہے۔
- اس میں فقہاء و محدثین کے اقوال و اقوال کا جائزہ لیا گیا ہے۔
- اس میں طلاق ثلاثہ کے حلال ہونے کے لیے ضروری شرائط بیان کی گئی ہیں۔
- اس میں طلاق ثلاثہ کے حلال ہونے کے لیے ضروری شرائط بیان کی گئی ہیں۔

مکتبہ فیضانِ شریعت

موبائل فون

شریعت کے آئینہ نگار

اس کتاب کے بارے میں

- یہ کتاب موبائل فون کے حلال ہونے پر بحث کرتی ہے۔
- اس میں فقہاء و محدثین کے اقوال و اقوال کا جائزہ لیا گیا ہے۔
- اس میں موبائل فون کے حلال ہونے کے لیے ضروری شرائط بیان کی گئی ہیں۔
- اس میں موبائل فون کے حلال ہونے کے لیے ضروری شرائط بیان کی گئی ہیں۔

مکتبہ فیضانِ شریعت

مزار اور مندر فرق

ادب و احترام

مکتبہ فیضانِ شریعت

رم رواج

شرعی حیثیت

اس کتاب کے بارے میں

- یہ کتاب رم رواج کے حلال ہونے پر بحث کرتی ہے۔
- اس میں فقہاء و محدثین کے اقوال و اقوال کا جائزہ لیا گیا ہے۔
- اس میں رم رواج کے حلال ہونے کے لیے ضروری شرائط بیان کی گئی ہیں۔
- اس میں رم رواج کے حلال ہونے کے لیے ضروری شرائط بیان کی گئی ہیں۔

مکتبہ فیضانِ شریعت

دین کس نے بگاڑا؟

شرعی حیثیت

اس کتاب کے بارے میں

- یہ کتاب دین کے بگاڑنے پر بحث کرتی ہے۔
- اس میں فقہاء و محدثین کے اقوال و اقوال کا جائزہ لیا گیا ہے۔
- اس میں دین کے بگاڑنے کے لیے ضروری شرائط بیان کی گئی ہیں۔
- اس میں دین کے بگاڑنے کے لیے ضروری شرائط بیان کی گئی ہیں۔

مکتبہ فیضانِ شریعت

73 فرقے

ان کے عقائد

مکتبہ فیضانِ شریعت

مکتبہ فیضانِ شریعت داتا دارالکتاب لاہور